

الهدى إلى

وَرَبِّحْهُ مَعَانِيَهُ إِلَى
اللُّغَةِ الْكَشْمِيرِيَّةِ

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
 وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ① هُوَ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّىٰ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
 تَمْتَرُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يُعَلِّمُ سِرُّكُمْ وَ
 جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ساری حمدیہ شامحہ سزاوارتس
 معبود برحقس ہم پیداہ کمر آسمان ۲ زمین ۳ ہم پیداہ کمر سمہ ۲ گاش ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
 يَعْدِلُونَ ختمہ قدر ۲ دول آستہ جہہ کافر پنہ بس پروردگارس سیت برابر تھاوان مخلوقو آندره معبودان
 باطلن (کجا خالق ۲ کجا مخلوق) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ سُوگو سوی پیداہ کردان ہم
 جہہ پیداہ کمر و۔ زہہ نشہ بواسطہ حضرت آدم علیہ السلام۔ توپتہ کمرن مقرر آکھ وقتاہ پرستہ آسیدہ زینہ
 ۲ مرزہ خیطرہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّىٰ عِنْدَهُ بیاکھ وقتاہ جھوس نشہ مقرر ۲ مُعْتَمِنٌ خیمہہ دوبارہ زندہ سپند
 خیطرہ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ توتہ ۲ جھوہ توبہ اندر بعض لوکھ شک ۲ تردد کردان مرند پتہ ہم زندہ سپندس
 منز۔ حالاجہ ہم ذات پاکن سوزوی گوڈہ پیداہ کمر تمس نش کیاہ عجایب جھو دوبارہ ہم پیداہ کمرن۔ وَهُوَ
 اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ بیہ جھوسوی معبود برحق آسمان منز ۲ زمین منز ۲۔ بس وراہی جھہ
 ساری معبودان باطل۔ يُعَلِّمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ زمان جھوسو جھہہ پوشیدہ احوال
 ۲۔ عن احوال ۲۔ لوتہ لوتہ تمہہ ۲ بڈہ بڈہ تمہہ ۲ بیہ جھو زمان ۲ سوزوی بیہ جہہ کردان جھوہ نیک و بد عملو

رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۴﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
 فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۵﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ
 أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ صِدْرًا رَاٍ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهِمْ فَآهَلِكْنَاهُمْ يَوْمَهُمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۶﴾
 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَابٍ فَلَمَسُوكُمْ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ

اندر۔ سمو تر شوی آیات کر سمویت سہ ثابت توحید باری تعالیٰ کیا زہ نس اندر سم صفات اس
 سوی جموع عبارتس سزوار بیہ نہ کانسہ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ یہ
 جھو نہ سمن مکہ کین کافران نہ سخرن لہ خدایہ سبہ وحدانیت کیو نشانو اندرہ کامہہ نشانہ کانسہ دلیلاہ
 واتان۔ مگر تم جھہ تمویضانو نہ دلیلو لہ تھہ پھر ان۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ چنانچہ تموکور انکار
 تھہ ہزس قرآن مجیدس علیہ سمن سوت۔ مگر تمں ہمدہ اُسہ انکار کرنے نہ تھہ پھر نہ لہ یہ نہ اچھہ
 ٹونہ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ جلدی لہہ تمں پتہ تمہہ چیز ک یو تھہ تم ٹٹھہ کر ان
 آس یعنی عذابس گزھن گر قار اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ صِدْرًا کیاہ تموو چھناہ پنہ نین سفرن اندر۔ لہہ کاژاہ امثر جھہ ہلاک کرہ
 مڑہ سمن اسہ دنیاہ س اندر سوت نہ طاقت دیو تمٹ اوس نس نہ توہہ دتتمت جھو۔ یہ آس آس تمں
 یوٹھہ آسہجہ طرفہ پے درپے وزہ وزہ زود تر اوان وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ یہ آسہ اسہ جھہ
 وبستیو نہ آبادیو منزہ جو یہ نہ کولہ جاری کرہ مڑہ فَآهَلِكْنَاهُمْ يَوْمَهُمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ باوجود آس سخر اسہ تم ہلاک جھہ
 یوٹھہ نہ نافرمانی سبہ۔ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ تو پتہ کمرہ اسہ تمں پتہ دریاہ جماثر پیداہ۔ بتھے پاٹھے
 توہہ پٹھہ نہ جھہ نہ نافرمانی سبہ اس عذاب نازل گزہ۔ یہ کیاہ عجاب جھو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَابٍ
 فَلَمَسُوكُمْ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الْكٰذِبُ إِنَّ هٰذَا إِلَّا حُرْمٰنٌ تَمَنُّ لَوْ كُنُّمْ عٰدُوں عٰوٰج جھہ یہ کیفیت

الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۸﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ
عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ الْقُضَىٰ الْأَمْرُ لَمْ لَا يُنظَرُونَ ﴿۹﴾
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا
يَلْبَسُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾ قُلْ

کہ ہر گاہ اس کاغذس پڑھے لیکن کتبہ کتابہ توبہ پڑھے نازل کرہ ہو تو پتہ کرہ من تم پتہ نیوا تھو سیت تھتھ
تھپ۔ توبہ دنہ من ہم کافر یہ مہر یہ جھونہ مگر ناکارہ ہو جو دتہ سحر کیا زہیلہ نہ دلہ کن مان غرض جھو
آسان تلہ جھو پڑھے دلیلہ نسبت کھنہ نہ کینہہ کتہ ہوان کڈنہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ بِسِ
وون ہم کافر و کیا زہ جھونہ من پانہ نازل سپان حضرت محمد ﷺ ہتھ کانہہ مگاہ کس پہرہ س
پیغمبر آسٹس پڑھے تصدیق کرہ ہا۔ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ اللَّهُ تَعَالَى جھو فرماوان ہر گاہ اس نازل کرہ ہوان مگاہ
پتھ پانہ ہم یحان آس لَقُضِيَ الْأَمْرُ لَمْ لَا يُنظَرُونَ تلہ یہ ہاقصے ختم کرہ نہ یعنی تھتھ صورتس
اندر ہر گاہ تم ایمان آنہ من نہ۔ تلہ یہہ ہاتھیدہ ہانک یہ گانک حکم جاری کر نہ تھتھ اندر نہ تمن تلہ قسمہ
مہلت یہ ہانہ موجود صورتس اندر آہ تمن مہلت دنہ تھتھ تمن توبہ کر تک موقدہ حاصل سپدہ وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا یہ ہر گاہ اس پیغمبر بناو تھتھ سوز ہوان کانہہ ملک سوبہ کرہ ہوان اس
صورت انسان بیا زہ عام انسان جھونہ طاقت ملک و جھنک وَقَلْبْنَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَلْبَسُونَ تو پتہ
ترلوو ہوک اس تم تمنی شمن اندر من اندر و نکٹس تم پمت جھتہ تمہ ساتہ دنہ من تھتھ سمہ و نکٹس
ونان جھتہ تم سبک صورت انسان آسٹس پیٹھ کرہ ہن جہ خبر چھایہ چھاملک بند جھونہ۔ لہذا نہ
سپد و تھہ یار سول اللہ منہز و تھو سیت آزدوہ یہ نو تھتھ جھنہ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ پڑ پانہ تھتھہ کو کر نہ تمن پیغمبرن
سیت تہ ہم توبہ پڑو تھتھ آس۔ تو پتہ دل تم تمی عذائن تھتھ تم تھتھہ کران آس۔ لیکن من لوکن تہ

سَيُرَوُّوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝
 قُلْ لَيْسَ مَنَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُوبٌ نَنْظُرُ إِلَيْكَ اللَّهُ تَكْتَبُ عَلَي
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْجَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ
 وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَخِذُوا

ہم توبہ ٹھنڈے کران ہجو۔ لہذا نہ باہر دیکھو۔ قُلْ سَيُرَوُّوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكَذِّبِينَ فرمادے کہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لو کو پھیر دیکھ ساری زمینیں تو پتہ ہو جھو کیا
 ہجو سہنت انجام مقرر ہند ہجو سان آیات ہدیزان قُلْ لَيْسَ مَنَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پر ڈھلا کہ
 تمہارے رسول اللہ آسمان وز زمین منزیہ ہجو یہ کہہ ہجو قُلْ تم نے امیک جواب دن پورے فرمادے کہ
 ہجو سوزی ہجو معبود ہر حقہ سند کیا زہ امیک جواب ہجو نہ امیہ ورا ہی کہی۔ كَتَبَ عَلَي نَفْسِهِ
 الرَّحْمَةَ تم ہجو ذمہ ہر مژ پائس ہجو لو کن نسبت مہربانی کرن۔ ہم ہر کہ زہ توبہ کرن لِيَجْجَعَنَّكُمْ
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ضرور کرہ توبہ ساری جمع قیامت دہ تو پتہ ہجو ساری حساب قیامت دہ
 گو سمجھیں ہجو منزنہ شہجے ہجو کا نہ۔ اللہ تعالیٰ ہجو فرمادے ڈھٹہ کہتہ ہے تمہارے کفران توحید ہجو
 دلیلہ زحمتک ہجو عذاب وعدہ وعید ہجو اَلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ مگر ہجو لو کو زمین پاں
 پائے نقصان ہجو تانس منزنہ تم پڑھ کرن نہ، ایمان آن نہ۔ کیا زہ ہجو ہجو ہجو عقل ہجو نظر ہجو
 ضائع کر مژ۔ کا نہ چیز حاصل کرن ہجو قوت فکر یہ استعمال کرن لازم ہجو ضروری آسان۔ ہجو
 قوس ہجو تم کا می ہجو۔ لہذا تمہارے ہجو ایمان۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ ہجو ہجو
 تمہارے ہجو سوزی ہجو رائس ہجو دہم منزنہ تمہارے ہجو۔ یعنی مکان وز تانس منزیہ کیو ہجو ہجو ہجو
 ہجو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سوزی ہجو سوزی ہجو ان سوزی زانہ ان قُلْ فرمادے کہ تمہارے
 رسول اللہ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَخِذُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُوبُ
 إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
 لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

پڑھان ہو کیا رشتن معبود برحقس وراى بيه کانه دوستاهم دگاراه به معبود انسنز عبادت بو کره سوتر او تھه
 نيس آسمان به زمين بنم پيدہ کردون بهجو۔ بيه بهجوسارنى کھياوان۔ تس بهجونہ کھياوان کانه۔ کيازه سُو
 بهجو کھينه چينه بهبه منزہ به پاک قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ فرمايو که تجہ يارسول الله ستمو عقلی دليلو علاوہ بهجه نقلی دليلہ ستمو موجب نہ پونہ صورت
 تس وراى کانه معبودزان۔ ستمو نقلی دليل کھيه بهيه که ميه اوامر کر نہ کہ بو آسہ گوڈو شوى کھمس تعميل
 کردون۔ بيه آم حکم کر نہ بهتھ نہ ہرگز بهتھہ شرک نہ وينو اندرہ۔ بيه بلکہ تس صاحبس ونہ او تس
 صاحب شرک نہ نہ معنوم به پاک بهجو۔ ونن بهتھہ بنن بہتھہ تھي۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
 رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فرمايو کہ تہ يارسول الله بوچوس کھوژان ہر گاہ بونا فرمانی کرہ
 پروردگار س پنے نس۔ بڑو دو بهس عذابس۔ تس عذاب کھم نہ مانو نمن کر نہ بهيه۔ سُو بوڈوہ گو قيامتک دوہ
 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ تس اس بهبه تہم دوہک عذاب بهتھہ لہ رنہ بیشک تس
 کور خدا ن بوڈر تہم۔ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ سوي بهيه ن رستگاری به کاميابی یعنی تہم دو بهبه عذابہ بهبه
 نجات نمن وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ای انسانہ ہر گاہ بڑیہ و اتاوی الله تعالیٰ کانه
 تکلیفہ، کانه بلایاہ کانه بیماریاہ منہ تنگیاہ نيس بهجونہ کانه اکھاہ نيس عتھہ تکلیفس بڑیہ بهبه ذور بهبه کھر تھہ
 تس معبود برحقس وراى۔ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر گاہ سُو و اتاوی بڑیہ

قَدِيرٌ ﴿۱۵﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۶﴾
 قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ
 لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا
 هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۱۷﴾ الَّذِينَ اتَّيَبُوا
 الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

کانہ خیر اہ صحابہ، دولتخواہ، تسلط خواہ کا نہ رہتے ہیں نہ سُو پہلو پر ہتھ چیز اس پینے قدرت دول۔ وَهُوَ
 الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سُو پہلو غالب پنہ نمین بدن پوٹھ۔ یہ پہلو سُو ی بوڈ حکمت
 دول سارچی خبر تھادوان قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً جہہ پر ڈھو سمن توحید و رسالت کین منکران کہ
 ساروی اندر ہلہ پہلو بوڈ گواہ آسن کن۔ مسندہ گواہی سیت کتبہ مختلف فیہ مسلس منز فیصلہ پہ کرنہ قُلِ
 اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ یوزے فرماوے کہ جہہ ساروی خوتہ پہلو بوڈ گواہ آسن کن اللہ تعالیٰ۔
 سُو ی پہلو میہ منزتہ توبہ منز گواہ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ
 لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى کیا جہہ چھواہ لہہ جہ گواہی پتہ تہ گواہی دوان کہ خدا بس سیت کیاہ
 پہلو یہ کا نہ معبودتہ شریک۔ ہر گاہ تم ذہن تم جہہ توتہ لہہ شرح گواہی دوان۔ تھہ صنور تس اندر پہلو
 تھن سیت گفتگو کرن بے کار قُلْ لَا أَشْهَدُ جہہ فرماوے کہ بوہر گزار جہہ تھہ ہنز گواہی پہلو سنہ دوان قُلِ
 إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ جہہ فرماوے کہ تھہ صنور تس اندر تھن اعتقاد کہ سُو معبود
 پہلو نہ مگر سُو ی۔ بو پہلو س بزار تھو چیز و لہہ ہم چیز جہہ تس شریک تھہر اوان جھوہ۔ رسالتس متعلق
 جہہ کافر دنان کہ اسہ بد تھہ بہنو دو نصاری ان تھہ متعلق جہہ یہ تھہ تھن کہہ الَّذِينَ اتَّيَبُوا الْكِتَابَ
 يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ تم لو کہ سمن اسہ کتاب عطا کر تم جہہ اس خلیفہر بر حقس شک و شبہہ
 واری تھہ پانھ زانان تہ پرزہ نادان گوڈہ پٹھے جھہ پانھ پنہ نمین پٹوین زانان تہ پرزہ نادان جہہ الَّذِينَ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
 كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۱﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا
 ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنُ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ
 تَزْعُمُونَ ﴿۲۲﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْذِرْهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا
 مُشْرِكِينَ ﴿۲۳﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

خَيْرٍ وَأَنْتُمْ لَا تُؤْمِنُونَ سمبولوں کو باوجود شہادتِ عمری یعنی بڑی گواہی آسمانہ باوجود پلین پان تادائس
 ۲۰ نقصان منتر او تم ہر گز پڑھ کران نہ، نہ توحیدس نہ رسالتس۔ ہم نیکرین توحید و رسالت ہجہ
 عقلاً نہ نایت بے انصاف وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 الظَّالِمُونَ یہ سبب اکھاہ ہجویش ظالم ۲۱ بے انصاف کس شخصہ سیدہ خود ۲۲ ہم اپز نوو زود کٹس خدائس پیئہ
 شریک ٹھہرونہ سیت۔ یا اہذ زان جہد آیات ہم پیغمبرن عطا آی کرند۔ پز پات کامیابی نہ رستگاری
 ہجند ہرگز تخمین ظالمن قیامتک دوہلہجہ آس تم گرفتار عذاب وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا یہ ہجوسودوہ
 ۲۳ قابل ذکر سمہ دوہہ اس تم ساری خلائین جمع کرو کہ محشرہ کس میدا اس اندر ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
 أَشْرَكُوا آيِنُ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تو پتہ و نو اس تمن لو کن ہم خدائس شریک
 ٹھہرون اس۔ آی مشرکوتہ چھوہ تم معبودان باطل ہم خبہ خدایہ سید شریک زانان آہو کہ۔
 سفارشہ خیطر ہکو نہ ہجو کہ پیش کران ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْذِرْهُمْ تو پتہ آس نہ تمن پند خیالہ نجاکت کانہ
 حیلہ نہ بہانہ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اپز ونہ ورا ی کانہ چیزاہ۔ وپن قسم کس
 خدایہ سندائس سون پروردگار ہجو۔ اس آس نہ خدائس شریکی ٹھہرون انْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ
 أَنْفُسِهِمْ وارہ و ہجو کٹہہ اپز وٹھہ پند تمن پان ہمدہ حقہ۔ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
 یہ مشکھ ہمہ سارے ٹھہ، اپزہ ٹھہ سمہ ٹھہرون اس آس تم دنیا اس اندر وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً
 آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۵﴾ وَهُمْ يَبْهَتُونَ عَنْهُ
 وَيَنْتَوْن عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۶﴾
 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ
 بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ بَلْ بَدَأَ اللَّهُ مَا كَانُوا

سمو کافر و اندر وہ جہر بعضی ہم جہد قرآن مجید بدن جہر لازمان۔ مگر سو جہد بوڑن حق ٹھانڈنہ خیطرہ
 آسان جھونہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اس جہر جہد بدن دلن و جھ
 تراوست خیطرہ۔ بھنڈنہ تمن فخرہ خرہ کینہہ یہ جھو جہد بدن کلن تراوست ڈر بھنڈنہ بوڑن جھکھ کینہہ۔ جھزن
 اچھن ہنز کیفیت چھ کہ وَان يَرَوْا كَلِمَةً آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ہر گاہ تمہ سارے ذلیلہ تہ و چھن توبہ
 کرن نہ پڑھ زن نہ کبھی و جھنت آسکھ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا
 آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تا اینکه بلکہ توبہ نہ پڑھ بدن جہر پندہ خیالہ بحث کرنہ خیطرہ مگر کینہہ جھو کہ نہ
 اندان لاجواب گو جھتہ جہر وہان ہم کافر کہ یہ قرآن مجید جھونہ مگر برد خٹھن ہندہ پدہ قصہ تہ انسانہ وَهُمْ
 يَبْهَتُونَ عَنْهُ وَيَنْتَوْن عَنْهُ یہ جہر ہم کافر قرآن مجید بازندہ پدہ پتہ رمان تہ منع کران یہ جہر پانہ تہ
 آسہ پدہ پتہ ڈلان تہ دور روزان وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ مگر یہ کرنہ سیت جھتہ ہم
 تباہ کران مگر پندہ فی پان یہ جھنڈنہ پندہ تباہی ڈرمان تہ محسوس کران وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ ہر
 گاہ ڈو جھکھ اکی وہ جھر وہ سو وقت سمہ سارہ ہم کافر تہ مگر وودنہ تھاونہ بدن نار کس بخش پینچہ پر ڈھہ گار
 کرنہ خیطرہ بدن پندہ خیطرہ تہہ سارہ و جھکھ ڈھہ سینٹا ہولناک منظر اہ اکھ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ تہہ سارہ
 لکن نہہ تم اکی کاش اے دنیا اس کن یہہ سمہ ہو سوزنہ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وکن اس پندہ پندہ خدلیہ شدن آیتن انکار کروہ ہونہ، تم اپوزنہ ہونہ۔ وکن نہ ہو اس تہ

يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۳۸﴾ وَقَالُوا لَإِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۹﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۴۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتُنَا عَلَى مَا فَطَرْنَا فِيهَا ۗ

با ایمانوی اندرہ۔ اللہ تعالیٰ جھو فرماوان نہیں ہے۔ تمنا کرن ہجھونہ عنہ۔ حقیتس تو تھہ مینی بَلْ بَدَّ اللَّهُ مَا كَانُوا يَخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ بلکہ سپد تمہن چیزن ہند اثرات ظاہر ہم ہا شیدہ = کھیتھ تھوان آس تم از کہ برو تھہ دنیا س اندر وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ہر گاہ ہم ہیر دنیا آس کن وانہس بن سوزنہ ہیر گزن تے کامہ سمونہ منع اوسکھ پوان کرنہ پز پانٹھ تم ہجھہ ہم وعدہ کرنس اندر بالکل اپزیر وَقَالُوا لَإِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ہیر آس ہم کافر ہیرہ دنان کہہ بیا کہ زند گیاه ہجھنہ ہیر کینہہ سمہ سانہ دنیا چہ زندگی وراہی۔ ہیر کتھ ہجھ غلط کہہ اس بیا سمومرنہ پتہ ہیر زندہ کرنہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ہر گاہ ژہا چہ ہجھہ ای لاہجھہ ویر سو وقت سمہ ساتہ ہم قیامتک مخرودہ تھوانہ بن پتہ نس پروردگار س برو تھہ کتہ ژہ گودھکھ حیران = پریشان سو وقت و ہجھتھہ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ فرماو کتہ ای مخرود کیا آسانہ قیامت = مرنہ پتہ زندہ سپدن حق = پوز قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا دین سانس پروردگارہ سند قسم ہیر اوس واقعہ بالکل پوز قَالَ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماو کتہ ہیر تھہدس اقرار کرنس ہجھونہ کینہہ اعتبار لہذا اثر ہودون تھہ عذاب پتہ کھرک = انکار کہ تو پتہ بن سوزنہ ہم ہجھنہس منز قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ بیشک تاوان ہیر تمہن لوکن ہم انکار آسن کران مرنہ پتہ ہیر زندہ سپدت خداہس برو تھہ کتہ پیش سپد نس ہیر انکار و کھذیب ہجھو دنیا س اندر کیندن دون حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتُنَا عَلَى مَا فَطَرْنَا فِيهَا ۗ

وَهُمْ يَحْبِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿۳۶﴾
 مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
 يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۷﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي
 يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ
 يَجْحَدُونَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى
 مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ

فیہا تمہ پتہ پلیرہ وانجھ پیہ تمہن قیامت ہجھہ نہ منجھہ دینہ لکن انوس ہجھو سائہ خیطرہ اُسہ کیا زہ کرے یہ
 سستی نہ کوتاہی اتھ اندر وَهُمْ يَحْبِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَسَاءَ مَا يَزُرُونَ در حالتیجھہ تلن تم پنہ
 نمین گنہمن ہند بور پنہ نمین ٹھنٹھن ہونٹھہ۔ دارہ لازوہ کو تاہ ہجھہ اُسہ نہند یہ بور کیا زہ تمیک انجام اُسہ سینجھاہ
 ہجھہ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اناہ شغلاہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ
 خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ البتہ آخر تک گرہ ہجھو سینجھاہ ہتر پر ہیز گارن ہمدہ خیطرہ کیا سہ
 دلیلہ لازتھہ ہجھوہ ناتوہہ فجرہ تران۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ ہز پانٹھہ اُس ہجھہ
 بخوبی یہ کتھہ زمانہ توبہ ہجھہ تمکین کران کافران نہ مکران ہنزہ کتھہ۔ مگر پروانہ ہر و کینہہ خدا انس ٹھرو
 یہ معاملہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ہم نہ حض ہجھہ براہ راست توبہ اپزور زمانہ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
 بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ لیکن ہم ظالم ہجھہ خدایہ سندن آیتن زانجھہ کمر تھہ عذاب انکار کران خدا
 ہجھدہ نہ سمن عذابس گر قدار کرنہ ڈرای۔ جہہ زوزو بے فجر وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ یہ معاملہ
 سپنہ توبی سیت، ہلجھہ توبہ بروٹھہ ہ آؤ خنیرن انکار کرنہ۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا تمو کور
 صبر کو کن ہدس انکار س، نہ مانس پنہہ وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہ انکار علاوہ آؤ تمہن عذاب نہ
 تکلیف نہ واتانہ تا ایکہ دوت تمہن مدد سون۔ تمو خنیرہ و تھہ پانٹھہ صبر کور ہجھہ پانٹھہ کمر و جہہ نہ صبر،
 ہجھہ پانٹھہ ولتہ توبہ نہ سون مدد۔ کیا زہ یہ اعانت و مدد کرن ہجھو اُسہ پنہ نمین ہندن ہمدہ خیطرہ مقرر

لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَائِي الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۷﴾
 وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ
 نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۸﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۳۹﴾

کورنت ولا کُتِبَ لِلَّهِ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ہرگز بیحد نہ کہانہ اکھاہ ہذل کبر تھہ خدایہ سندین مقرر کر متین
 کمن وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَائِي الْمُرْسَلِينَ بیشک توبہ واثرہ برد تھمن فتمبرن ہنز خبرہ قرآن مجید
 کبر ذریعہ یعنی تمن کتھہ پانھہ آؤ تکلیف دن۔ تھہ توتھہ کتھہ پانھہ کور تمبوسبر وَلَنْ كَانَ كِبْرُ عَلَيْكَ
 إِعْرَاضُهُمْ ہر گاہ توبہ توتھہ کافرن ہ منکرن ہنز روگردانی کرن ہتھہ ناگوار سپدان۔ تھنز خواہش ہتھہ
 تمن تم معجزات ہاون کمن ہند تم مطالبہ کران ہتھہ۔ دیوہ تمی سیت تمن ہدایت ہنہ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ
 تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ہنس ہر گاہ توبہ طاقت ہتھہ تھہ کمر و
 تلاش زمیں منزکانہ گو پچاہ یا آسمانس کن لاگو کانہہ ہیراہ توپتہ دیوہ کہہ کتھہ تم معجزہ ہم تم توبہ ہتھہ
 ژحاندان ہ طلب کران ہتھہ۔ ہتھہ طاقت ہ کمر دیوہ ہتھہ پورکہ توبہ ہتھہ سینشاہ آرزو عالمک لو کہ
 گوہہ سیزہ دیوہ توتھہ ہن۔ مگرہ ہتھہ خدایہ سندس ہتھہ خلاف وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى
 پروردگارے ہتھہ ہاسارنی سو نمبر اوہ ہابدائیس توتھہ۔ مگر تم یو ژحند ہہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ہنس
 نہ ہو تھہ بے خبر و اندرہ۔ یہ تم نہ فخر ترا دو تھہ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ہتھہ ہتھہ مانان ہہ
 قبول کران مگر تمے ہم وارہ لا زان ہتھہ ہتھہ ہتھہ ژحاندانہ خیطرہ۔ تمن ہتھہ اللہ تعالیٰ ہہ ہدایتک توفیق
 دو ان۔ ہتھہ کافر و لا زانہ ہتھہ پانھہ۔ لہذا کتھہ پانھہ ہتھہ ہدایت۔ دون ہر گاہ آمد انکار و اعراضہ مؤکدہ
 تمن دنیا اس منز پوزہ عذاب آؤ کرنہ تمن چھایت ہروژان آخر ہتھہ کہ مرن وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ
 إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ سارنی مردن کرہ اللہ تعالیٰ زندہ قیامتک دوہ آخر کس اندر توپتہ ہن تم و اتانہ حساب

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَيْرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلَكُمْ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۶﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

خیطر ہ اللہ تعالیٰ اس نبیؐ۔ سوئی دین تمہن پورہ سزا تمہا انکار و اعراضک لہذا تراود تمہہ خہد خیال۔ تمہز فجر
 ۳۵ نم منہ بر و کینہہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ یہ دوپ مکہ کیو کافر و کونہ جھو نازل سپہ ان
 سمس پیغمبرس و تھہ کا نہ نشا ناہ معجزا ہ پنہ نس پروردگارہ سپہ طرفہ۔ تمہ معجزا اندرہ سمہ ہند اس
 مطالبہ جھہ کر ان سمہ سیت بہند س پیغمبر آئس تا سید سپہ ہ۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً
 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فرماو یاکہ جہ یارسول اللہ بیشک اللہ تعالیٰ جھو پر جھہ نشا نہ ۳۵ معجزہ نازل
 کر نس پیٹھ قدر ۳۵ دول۔ لیکن اکثر لو کہ جھہ زاناں سمہ معجزاں ہند نازل کزن جھو آئس قانونس تحت
 آسان۔ یہ جھونہ لو کن ہنز خواہہ مطابق نازل کر نہ یوان اسمہ انجامہ نبیہ جھہ اکثر لو کہ بے خبر۔ اسمہ
 قسمکین معجزاں ہند انجام جھو ہر گاہ تم فرما سئ معجزہ جھہ تم ایمان اُن نہ پڑھ کرن نہ تلہ بن تم یکدم
 ساری گانہ ۳۵ تہا کرنہ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَيْرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلَكُمْ یہ سم
 جاندار ز میلس منز خشکی و تھہ یادریاوس منز جھہ۔ یہ سم جانور ہند نیو دو یو ہنز وسیت ہوا س منز وڈان
 جھہ۔ سمہ منزہ جھونہ کا نہ قسم نس نہ قیاسک دودہ جھندی پاٹھہ جماژو جماژو محشرہ کس میدانس منز جمع
 کرنہ اسمہ۔ اگرچہ تم ساری جھہ بے شمار، لیکن اسمہ نبیہ جھہ تم حسابس اندر جمع کرنہ آسب مَا فَرَقْنَا
 فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ کیا زہ اسمہ جھونہ تر و دست پنہ نس و فترس منز یعنی لوح محفوظس اندر لیکنہ درای
 کا نہ چیز او۔ پر جھہ آئس چیزس متعلق جھو اسمہ لیو کھمت سم چیز قیاس تان پیدا سپہ دون جھہ کسمند
 کیا حال اسمہ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ تو پتہ بن سم ساری انسان جاندار ۳۵ جانور پنہ نس پروردگار س
 نش جمع کرنہ سوی کرہ سارنی منز فیصلہ۔ چنانچہ حدیث شریف جھو ”متفق علیہ“ کہ اگر دنیا س اندر

بِإِيتِنَانِهِمْ وَبِكُفْرِي الظُّلْمِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلِّهِ وَمَنْ يَشَاءُ
يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۰﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ
اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱﴾
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَسْئَلُونَ
مَنْ تُشْرِكُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ

اک پہنچد اور جانورن پہنچو رحمتس جانورس نھول آسہ لائعو قیامتک دودہ لہہ شس بھہ اینوک بدلہ ہند۔ تمہ
پتہ لہہ حیواناتن تہ جانورن لھم کرنہ میو بھو ہنودہ تمن سپدہ میو۔ تمی ساتہ دین کافرنا لہتی کنتنا
نرابا، کاش کہ لہہ آسامیوے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُمْ وَكَانُوا فِي الظُّلْمِ تم لو کہ سمولہ دزان
سان آیات یعنی قرآن مجید تم بھہ پوزیازنہ بھہ زریازونہ بھہ کل۔ کھر چن رنگارنگ کھن اندر گرفتار
مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلِّهِ نھس بھہ اللہ تعالیٰ پزہ بھہ اعراض کرنہ موکھہ کمر اول نھس بھو گمراہ کران
وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بھہ نھس بھہ اللہ تعالیٰ نھس بھو سیزہ و بھہ و بھہ دین نھس بھہ اتان
پتہ فضلہ سیت۔ بھتس حاکس منز جہد غم کھيون بھو بے سؤد۔ یہ معاملہ کھر دتمہ خدا نھس پھر د
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فرما دیو کہ بھہ
یارسول اللہ ای مکہ کیو کافر و میہ و نھو ہر گاہ تو بھہ خدا لہہ سہ عذاب پھہ دنیا س اندر تمو عذاب لہہ آندرہ
کانہ عذاباہ ہم از تام نھنن تہ نافرمان بھہ نازل کرنہ آئے یا قیامتھی پھہ و بھہ تو بھہ بھہ
منز ہولناک واقعات آسن کیا تم ہولناک چیز دفع کرنہ نھطرہ دیوہ بھہ آلو خدا نھس ورا کی بھہ کانہہ
بھوے جہہ شریک نھس اولس اندر پزیر۔ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَسْئَلُونَ
مَنْ تُشْرِكُونَ ہر گز نہ ہر گز نہ بلکہ دیو بھہ نادہ آلو تمہ ساتہ نھس یوت تہ بھہ نہ کانہہ۔ پس کروہ سؤی
دور تہ دفع سؤ عذاب۔ سمہ نھطرہ نھس ناد دیو۔ ہر گاہ سؤ بھہ سؤ عذاب دور کرن۔ بھہ مشبوہ تمہ ساتہ تم
ساری لہہ معبود ہم نھس شریک نھس اولان آسہ۔ ای آندرہ زانکو بھہ خدا نھس ورا ی بلہ نہ قادر مختار کانہہ

وَالضَّرَآءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿۲۱﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ
مُبْلِسُونَ ﴿۲۳﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۴﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ

مجموعہ عبادتیں سزاوار تھیں اور یہ آیتھیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا آلَ إِمْرَأَتَيْنِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لهنَّ سُوْرَةٌ مِنْ قَبْلِهِنَّ وَارْتَبَيْنَ
امتن کن توہمہ بردنہ تمہو کر تمہن پیغمبرن انکار تم زانکہ لہذا۔ کَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالْقَارَاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ نہیں رٹ آسہ تم رزقہ تنگی سیت تہ بیمارہ سیت تہ تم ہنہ پھنن تہ اسہ کن رنج ستر تہ
عاجزی تہ زارہ پارہ کرن۔ پنہ نمین کفر و تکذ یہ کہین گنہن ہندہ خیطرہ۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
نہیں کونہ سنا کرے یہ سمجھو عاجزی تہ زارہ پارہ سمہ سارہ تمہن سون عذاب واثر و۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
لیکن بہندہ دل آس سپد مت سخت عاجزی تہ پانہ کرہ ہن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ لاس
وہمت شیطان زینت جنزن تمہن پانہ کامین سمہ تم کران آس۔ نہیں آئی نہ باز تم سمجھو کاسیو لہذا
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ نہیں بلکہ تمہو مشر و اوہ تمہ سارے نصیحو سمہ
تمہن کرنہ آسہ یوان پیغمبرن ہندہ ذریعہ اوہ مہور او اسہ تہندہ خیطرہ سارہی نعمن ہندہ دروازہ تہ زیادہ
فرق مہو صن ہا فرماہن اندر حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تا ایک
بلکہ تم سینہا خوش لگ گروہہ تمہو نعمتو سیت سمہ دنہ آسکھ آمودہ۔ غرور تہ مخبر ہوت تھ گروہن آلی
رٹ آسہ تم عذابہ سیت ہنہ تہ مہن نہیں سپد تم حیران تہ پشیمان یہ ساروی چیز و لہذا تا امید قُطِعَ دَابِرُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نہیں ژنہ آدمول ظالمین ہند۔ عالم سپد آزاد جہندہ شرہ
نہند۔ حمد یونین خدا نہیں رب العالمین جمہو سمہ من ظالمین ہنہ بنیاد گاج قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ

وَأَبْصَارِكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِهِ أَنْظَرُ
 كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿۳۶﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ
 أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ
 الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾

سَمِعَكُمْ وَأَبْصَارِكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِهِ فرمایا کہ جبہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلمیہ دیکھو ہر گاہ اللہ تعالیٰ آسمانی طرفہ کا نہ عذابہ نازل کرے نہ مگر سونیاہ تو بہہ یوز تک قوت، وہ تمہک قوت، بیہ کرہ جہنمین ذلن تو تمہ شہر سمہ سیت نہ کہ نہہ بہ ہیجو زانتہ کہہ معبوداہ ہیجہ معبود ہر جس و رای تو بہہ ہم قوت عطا کر تہہ۔ ہر گاہ جبہ آتہ آتہ اقرار چھو کہ کا نہ بہ ہیجہ نہ اسہ ہم قوت عطا کر تہہ اوہ کیا زہ چھو جس و رای کا نہ مستحق عبادت زانان انظر کيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون ای پیغمبر برحق و چھو تہہ پانچہ چھہ اس دلیلن ہنز وضاحت کران۔ تو پتہ بہ چھہ ہم تمن دلیلن اندر غور و فکر کر نہ نہہ پھر ان بہ تو ہی کران۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ فرمایا کہ جبہ یارسول اللہ صلیہ دیکھو جبہ ای کافر و ہر گاہ تو بہہ خدایہ سب عذاب و لہہ بہہ نہ مگہ نہ پانچہ رات کیت یاد اولہہ کیا ظالمین و رای غیبیہ کا نہ تمہ عذابہ سیت گا کہ۔ ہس کیا زہ چھو نہ جبہ نافرمانی بہ ظلم و تعدی نہہ چھہ روزان وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بیہ چھہ اس سوزان پیغمبر کو کن کن ہر ف سمہ تہہ خیطرہ ہیجہ تم فرماؤن با ایمان فرمایا ہر دارن خدایہ سزہ رضامندی ہنز بشارت ہیجہ کرن کافر ان بہ نافرمان پروردگار سزہ ہزاری ہند ہیجہ۔ ای خیطرہ سوز اسہ حضرات انبیاء، سمہ خیطرہ سوز نہہ ہیجہ کیا پاؤن کو کن تم تم مجزہ ہم ہیجہ معجزن ہنز کو کہ فرمائش کر تہہ۔ چھہ پانچہ سوز وہ اسہ جبہ بہ یارسول اللہ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہس سمو لو کو چھہ ن ہندہ بشارت بہ ہیجہ نہہ سائین آیاتن پڑھ

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَمْشُومُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا
 يَفْسُقُونَ ﴿۱۹﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۰﴾
 وَأَنْذِرِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ

سحر تمھ رتھ عملہ کرہ تمھن آئند آخرتس اندر کا نہ خوفانہ کا نہ غماہ آئند وَالَّذِينَ كَذَبُوا
 بِآيَاتِنَا يَمْشُومُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ یہ سمولو کو پیغمبرن ہندہ بشارت و نذارت کرنہ پتہ ہر
 سائین آیاتن ایزانتمھ انکار کور تمھن رتھ عذاب دنیا س اندر ہر آخرتس اندر ہر۔ ہر کیا زہ تمھ کیا اسن
 تا فرمائی کران قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ یہ قاعدہ ہ اصل تمھ بیان کرنہ پتہ فرما دیا کہ تمھ
 یارسول اللہ ای لو کو دعوئی نبوت و رسالت کمر تمھ جھوس نہ بو تو یہیہ زبان میہ رتھ ہر میانس تمھ رتھ
 منز کیا تمھ خدایہ سندین مقدور اتن ہند خزانہ۔ سمہ سادہ تمھ کئیہ چیزچ فرمائش کریم تمھ سادہ کیاہ
 ہر لوہ بوسو چیزچہ قدر ہر ہر طاقتہ سیت وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ نہ جھوس بوہر دنان تمھ بو کیا زانہ
 علم غیب۔ بلکہ جھوس بو پیغمبر یا سمہ پیغمبری میان دلیلو سیت ثابت تمھ۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
 نہ جھوس بو تو یہیہ زبان کہ بو کیاہ جھوس ملک إِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ بو جھوس نہ بیروی کران مگر
 تمھ یہ میہ رتھ بطریق وحی سوزنہ بو ان جھوس۔ تمھ پاتھہ یمن غنیمہر ان کن وحی سوزنہ بو ان اوس قُلْ هَلْ
 يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ فرمایا کہ ای لو کو اُون ہر گاشدار چھا بر لہری یہ تمھ جھہ مسلم کہ تم زہ ہر گز
 برابر تمھ۔ کیاہ تمھ جھوہ نایزشان گاشدار ہتمہ تمھ میانس کلا مس اندر فخر کرن۔ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ
 کونہ جھوہ تمھ جھہ میانس کلا مس اندر فخر کرن وَأَنْذِرِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ
 رَبِّهِمْ تمھ کمر و خض نیم سمہ قرآن مجیدہ سیت تمھ لو کن سم کھو ژان جھہ کہ تم کیا یمن دانانہ پتہ نس
 پروردگار س رتھ کین لہم من دُونہم وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تمھ حالس منز کہ نہ آسہ

لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۱﴾
 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
 يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ
 مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ
 الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ
 مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۳﴾

تمن تمس وراى کانسہ دوستاہ نہ نہ کانہ شفاعت کر واناہ ہمہ تم بکن احتیاط سان نہ کھوڑ کھوڑ وَلَا تَطْرُدِ
 الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ یہ مہ حض کر لاکہ دور پاس رنجہ
 تم لوک ہم عبادت کر ان ہجو پند بس پرودگارہ سز سنج نہ شان نہ۔ ہم ڈھانڈان ہجہ جہدر ضا، آوہ
 آجین تم فقیری۔ مگر تم مہ حض آسینو کہ کڈان پند مجلسہ آندرہ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
 وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ توہہ پوٹھہ ہجہ نہ جہدن عملن
 ہنز جو ابدی نہ ہجو تمن پوٹھہ نہ جہزن عملن ہنز جو ابدی۔ جہہ کن نظر سحر تھہ جہہ تم پند مجلسہ آندرہ
 نہر کڈ لاکہ۔ ہر گاہ جہہ کوم کر و جہہ تلہ ایو جہہ شمار کرنہ بے انصافی نہ ظلم کر و نہو آندرہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا
 بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا جتھہ پاتھہ کر آسہ آزمائش بعضی لوکن بعضی
 لوکو سیت (شریفس ہست لوکو سیت۔ مالدارن فقیر و نہ مسکپو سیت) جتھہ مگر شریف نہ مالدار و پین
 با ایمان فقیرن ہند حال و جتھہ۔ کیا آسہ منزہ کرہ اللہ تعالیٰ ان! منی پیٹھہ بکن فضل نہ مہربانی جہمازہ اسے
 آسہ سانہ خو نہ زیادہ جتھہ سز لوار أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ کیاہ یہ جتھہ ہجھنا تمن ہمہ خدا ہجو پڑان
 وائل شکر گزارن نہ حق شان۔ وَإِذْ آجَاءَ لُؤْلُؤُا الدِّينِ يُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَقَدْ كُنْتُمْ أَشْ
 تَوٰہہ رنجہ یوان یارسول اللہ تم لوکہ سمو پڑھہ کر سائین آیات بس آسکھہ جہہ دپان سلام ٹولن توہہ پوٹھہ
 ای با ایمانو جہہہ و خطیرہ ہجھہ بڈ بشارت ہمہ توہہ ہجو سلامتی تمسا ساروی آتو نہ بلا و رنجہ ہمہ آفتن نہ

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
 رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا ابْجَهَالَةً ثُمَّ
 تَابَ مِن بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۶۰ وَكَذَلِكَ
 نُقِصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ۝۶۱ قُلْ إِنِّي
 نُهَيْتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَّا
 أَسْبِغُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝۶۲

بلایں آخرتس اندر کافر سے معرک گرفتار سپدان کتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ پانس پیٹھ ہنر و
 مجھ سے تمہیں ہر دور و گارن مہربانی کرن سو مہربانی ہے کیے کہ ۔ اَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا ابْجَهَالَةً ثُمَّ
 تَابَ مِن بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہم شخص توبہ اندرہ کا نہ گناہ کور ، نادانی سبب ، توبہ
 کوزن تمہے توبہ ہے کوزن پانس اصلاح ، سبک کن پن پان ، مجھو توبہ رو دہتھ ملنے دتھے توبہ پانس ہے
 کوزن توبہ پس پیشک سو جھوٹس سے سینہاہ مغفرت کردون سینہاہ رحم کردون وَكَذَلِكَ نُقِصِّلُ
 الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ہے تھہ پاتھ پتھس با ایمان سے کافر ہنہ حال سے انجام واضح
 کوریتھے پاتھہ جھہ اس آیاتن اندر سے کج وضاحت کران ۔ تھہ با ایمان ہنر و تھہ سے ظاہر سپدہ کافر ان
 ہنر و تھہ سے وارہ تھہ ۔ حق ٹھانڈو نمین ہمدہ خیطرہ سپدہ معاملہ سل سے آسان قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَن
 أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فرماوے کہ تھہ یار سول اللہ کبر پز پاتھہ میہ جھو خدایہ سپدہ طرف منع
 آنت کرنہ تمہن معبودان باطلن عبادت کرنہ تھہ سمن تھہ خدائس و رای عبادت جھہ کران قُلْ
 لَّا أَسْبِغُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ہے فرماوے کہ توبہ ہو کر نہ بیروی تھنر ان
 خواہش ہنر ہرگز ۔ ہر گاہ توبہ کرہ نعوذ باللہ تلمہ جھوٹس نہ توبہ سے و تھہ تھہ پکے و تھہ اندرہ سے ہدایت لہ و تھہ
 اندرہ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ہے فرماوے کہ تھہ کہ میہ تھہ جھہ تھہ دین اسلام کس
 دین حق آسٹس تھہ کافی دلیل یوسہ میانس پروردگار سپدہ طرف میہ تھہ واٹر ۔ سو دلیل کتھہ قرآن

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ
خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۵۹﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۶۰﴾
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَعَلَّمَ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا

مجید نیس میون بوڈ مجزہ ہجو۔ ہمہ سیت میانس پیغمبر آسئس تصدیق سپدان ہجو۔ نہہ ہجوہ بے وجہ
تھہ اپر ہگز ران نہ انکار کران۔ نہہ ہجوہ نہ اتھہ صحیح دلیلہ نہ ہڈس مجزس پیٹھہ اکتفاء کران۔ بلکہ ہجوہ
جہہ فوری عذاب نازل سپد تک در خواست کران۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ میہ اتھہ نہ
میانس قدر تس منز ہجو نہ سو عذاب ہمیک نہہ فوری مطالبہ کران ہجوہ نیس جہہ جلد ژہانڈان ہجوہ
إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ اُمیک حکم ہجو نہ مگر خدا یہ سی اتھہ۔ تس نہہ ہمہ کانسہ ہند حکم چلان ہجو نہ۔ سو
حکم سپد نہ نہہ جاری۔ نو اتھہ پانٹھ انوہ پانے سو عذاب۔ ہتھہ زود یہ بوڈ مجزہ قرآن مجید اُمیک نزولک سپد
حکم جاری۔ یہ ہتھسوہ نو توہہ پیش کران نہ ہوان يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اللہ تعالیٰ ہجو
بیان کران پڑہ تھہ بدلیل۔ سوئی ہجو سارنی ہمدہ خوہ بہتر فیصلہ کرہ وان۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي
مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ وارہ وضاحت کر نہ ٹھپڑہ فرماوٹا کہ جہہ ہر گاہ میہ اتھہ نہ میانس اختیارس
منز آسہا یہ ہتھہ منز نہہ جلدی کران ہجوہ یعنی عذاب نازل کرن لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تہ
آسلا ہتھام توہہ نہ میہ منز کہنہہ کالک فیصلہ آنت کر نہ۔ نہ ہجو فقط خدا یہی اتھہ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِالظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ اس ہجو پورہ علم ظالم ہند۔ سوئی زہہ تم ہنہ نیس سو تھہ پانے وَعِنْدَهُ
مَفَاتِحُ الْغَيْبِ یہ ہتھہ تس نہہ یعنی جہدس قدر تس منز نیہہ چہ کو نرہ نہ خزانہ تمام ہو شیدہ چیزن ہمدہ
لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ہمہ زانہ نہ کانسہ تس درای۔ تمو چیز و آندہرہ ہمہ چیز چ ہمہ وقتہ ایڑنن سو ظاہر
کران ہجو تہنن ہجو سو ظاہر کران وَعَلَّمَ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یہ ہجو سوئی زمانان نہ سو زوی یہ ہتھسکی پیٹھہ

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمِتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
 وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۱۰﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ
 مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى
 ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ
 فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً نَّحْتِ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ

در یادان منزه و اما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين
 بیه چھو نہ کانسہ پنہ بر گاہ کلہ توئہ و اس پیوان مگر سو چھو نہ سوروی زمانان بیه چھو نہ کانسہ نہ
 پھولاہ زمینہ چہ تاریکی منزه پیوان مگر سو چھو نہ زمانان۔ بیه چھو نہ کانسہ لوڈرتہ ہو کھنت چیز اوئس نہ
 روشن کتابہ اندر درج کرنہ آمت چھو یعنی لوح محفوظ طس اندر، چھہ منزه چھو پر چھہ چیز اوئس قیاس تان
 پیدہ سپدہ وان چھو درج کرنہ آمت وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ سو معبود
 بر حق گوئوی ئس توبہ (ای انسانو) رات کیت بندرہ اندر اسبہ قسمہ ماران چھو (پچ ان چھو چہ تروہ ہی
 فرشن توئہ) بیه چھو سوئی زمانان دوئس منزه کہہ کامہ تروہ چہ تَمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ رات کیت بندرہ پاو چھہ
 چھو سوئی بیه ہشیار تروہ چھو دھان لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى چھہ پو روہیہ کرنہ مقرر کرنہ آمت میعلہ یعنی
 محبزوہ زندگی بندہ مدت راجبہ بندہ تروہ سیت تَمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ تو پتہ چھو تاس کن توہ رجوع کرن
 حقیقی مرنہ پتہ زندہ سپدہ تَمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تو پتہ کردہ سو توبہ خبر چہ کہہ کہہ کامہ آسو
 کران ئس دیادہ مزدور پر چھہ کامہ ہنز رتہ کامہ رتہ مزدور بچہ کامہ بچہ مزدور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
 وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً سوئی پروردگار چھو غالب قدر تہ سیت پنہ نمن بندان پینچہ بیه چھو سوئی سوزان
 تھمدن بدن بندہ حفاظت خیطرہ ملائکن ہم ڈر ژان چھہ ہنزہ سارے کامہ حَقِّي إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ تا ایکہ بلکہ داتان چھو توبہ اندرہ کانسہ اکس مر تک وقت۔ قبض

مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ ۗ الْآلَةُ الْحَكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِبِينَ ﴿۱۳﴾ قُلْ مَنْ
يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ
أُنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۴﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ
مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۵﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى
أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ
يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ لِبَاسَ بَعْضٍ ۗ نَظُرًا كَيْفَ نُصَرِّفُ

زورج چھہ کران تس سان بدل سوزمت ملک۔ تم چھہ عنہ قسمہ سانس کلمس اندر کاسہ اہس کی یا زیادتی
کران۔ بلکہ چھہ پانچہ تہ سہہ وقتہ تمن قبض روکک کلم سپدان چھو چھہ پانچہ چھہ کران لَمْ يَذُوقُوا إِلَى اللَّهِ
مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ تو پتہ بن واتاوند مرنہ پتہ ساری بندہ آخر تس منز معبود بر حقس کن۔ نھس چھہ حقیقی
مالک چھہ۔ الْآلَةُ الْحَكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِبِينَ وارہ لوزو تمہہ ساتہ آس کلم ٹو ہندوی حکم، فیصلہ
چھہ دی فیصلہ سہوی چھو یز جلد حساب ہیوہ وان۔ حساب پتہہ جزاء تہ سزا دودہ وان قُلْ فرماوے کہ چھہ
یار سؤل اللہ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کلم چھو نھس توہہ اے مکہ کیولو کو چھہ بن سفران اندر،
خنگلی تہ دریا وان ہنز و تختیو تہ مشکو لہہ چھہ حالس منز نجات چھو دوان کہ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً چھہ
چھوہ تس نجات منگان عاجزی سان کلمہ وقتہ، لو تہ لو تہ کلمہ وقتہ و نان چھوہ تمہہ ساتہ چھہ پانچہ۔ لَئِنْ أُنجَيْنَا
مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ای سانہ پروردگار ہر گاہ ژہ اسہ نجات دکہ سہہ خنتی لہہ و کھنئیس، تھلیہ
سپد واس سینہاہ شکر گزار حق شناسی پیٹہہ قایم روزہ وینو اندرہ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ
أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ کھی فرماوے کہ اللہ تعالیٰ ای چھوہ توہہ ہمیشہ نجات دوان اسہ خنتی لہہ تہ۔ اسہ خنتی
ہنز کیاہ کھی چھہ ساروی تختیو لہہ چھوہ سہوی نجات دوان تو پتہ تہ چھوہ چھہ تس بد ستور شریک
ٹھمر او ان۔ ہر کچہ کامہ کران لہہ بڈنا شکر ی تہ ناسپاسی گہ۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا
مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ لِبَاسَ بَعْضٍ چھہ فرماوے کہ یار سؤل

الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّابٌ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ
 لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مَسْتَفْزِعُونَ ﴿٦٧﴾
 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى
 يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
 بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ

اللہ سے کچھ نہ کہہ سکو پروردگار اچھے پائے نجات دہان، جو کچھ پائے، جو بوڑھو قدرت اول سے کہہ چکے، چھبہ کفر و
 شرک سے سب سے سوزہ توہم و تھمہ عذاب ہر سہ طرفہ۔ یعنی آسمان پر طرفہ کتبہ ہر سہ یا زود سہمہ۔ سیت سیلاب
 ایوہ۔ یا چھبہ یو کھو زو طہ۔ یعنی زمین پر طرفہ، بونیال ہیو، یا کرہ توہمہ داریاہ جھاڑ۔ سمن پانہ وان سخت
 اختلاف آسہ، تھج نوبت ولتہ جنگ وجد اس پیٹھ۔ تو پتہ ژ حناوہ توہمہ اندرہ اکس بے سزہ لڑا پے ہند
 نرہ۔ یا گزہ سو توہمہ سمن سارنی تخمین گرفتار۔ غرض نجات دہن سے تھس اچھہ بلا پے گرفتار کزن سے تھس اچھہ
 انظر كيف نصرت الآيات لعلهم يفقهون۔ وہ جو کچھ پائے، جو مختلف طریقوں سے بیان کران آیات یعنی
 توحید چہ دلیل تھہ تمن وارہ فخرہ غرہ وَكَذَّابٌ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ باوجود آن زون اپڑہ غیر واقعی
 توہمہ قومن یہ عذاب۔ حالانکہ یہ جو بالکل حق سے ہو۔ یعنی واقع سپہ دان۔ یہ ہو نہ تھہ بیگن تم صرف
 یو ٹوی پر ژ حتمہ کہہ یہ عذاب کر سپہ واقع قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ تھہ فرماو لاکہ تھہ متعلق کہ
 ہو جو سہ توہمہ عذاب واقع کر تک ذمہ دار۔ یہ کیا آسہ کچھ پور خبر یا سو کیا آسہ میانس اختیار اس اندر
 لِكُلِّ نَبِيٍّ مَسْتَفْزِعُونَ پر تھہ خبر ہندہ واقع سپہ نہ خطیرہ جو لاکہ وقاہ مقرر کرنہ آمت۔ تو
 ہر سپہ جلدی معلوم و إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره
 یہ بلکہ تھہ و چھان آسہ کہہ تم لو کہ یعنی دشمن ہم سائین آیاتن سے ادکامن نکتہ چینی جو کران۔ تھس
 آسہ تھہ تمن نشہ لوب روزان۔ تمن منزہ آسہ بہان یوتان تم مشغول آسن سپہ ان تھہ ورا ی یہ تھہ
 تھہ منز وَاِمَّا يُنسِبُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ہر گاہ تھہ وقتہ شیطان آسہ

مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذَكَرْتُمْ لَكُمْ يُتَّقُونَ ﴿١٩﴾ وَذَرِ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ
 ذَكَّرْتَهُمْ أَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدِيلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ
 الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ

توبہ پر ممانعت مشروان، چہ آہو مشرنس منز بغلطی جہزہ مجلسہ اندر بہان۔ نفس منہ ہوں (یہ توبہ
 توحش پیوان آہو پر ممانعت۔ ظالم قومس سیت جہزہ مجلسہ اندر بلکہ آہو فوراً اثر توحش پیوہ وکوی تمہ
 مجلسہ منزہ نیران وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذَكَرْتُمْ لَكُمْ يُتَّقُونَ ہم لو کہ
 ممنوعات شرعیونہ ہتھ روزان۔ تمن منز جزا من مجلسن اندر بلا ضرورت شمولیت کرن تہ پانے آو
 تمن مجلسن منز احکام اسلامن پیوہ طعن و تشنیع کرنہ آہو یوان۔ تمن پیوہ جھونہ طعنہ دوہ و تمن ہمدہ
 سزاء اندرہ کانہ چیزا۔ ہر گاہ کہ سخت ضرورت ہو کہ تمن کنہ وقتہ جہزان مجلسن اندر گڑھن پیوان آہو۔
 مگر تمن ہزہ توت گڑھتھ تمن و عطف و نصیحت کرن دیوہ تمن تہ طعنہ زنی نہیہ ہتھ روزان وَذَرِ الَّذِينَ
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بلکہ تراویا کہ تم لو کہ تہ ہم پنہ نس دینس (ہتھ مان
 تہ تسلیم کرن تمن پیوہ فرض اوس یعنی دین اسلامس) ٹھنہ تہ تمسخر ہتھ کران۔ تمن جھو ڈھوکہ
 ذہمت دنیاچہ زندگانی۔ تم جھو دنیا کس کھینس چینس اندر مست، آخرت جھکھ نہ یادے وَذَكَّرْتَهُمْ
 أَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ترک تعلقات کتر تھ تہ کتر و تمن لو کن و عطف و نصیحت چہ آہو قرآن مجیدہ
 سیت ہتھ شخصس عذائس گرفتار گورہ کانہ شخصہ پنہ نیوہ اعمالی سیت لیس لہا من دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ
 لَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدِيلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ہمہ عذابہ نہیہ ہوکنہ خیطرہ آہو نس شخصس عذائس
 وراي کانہ مددگار تہ کانہ شفاعت کرہ ہا۔ نہ ہو کہ سوتھ عذابہ نہیہ توت مال دت نس دنیاس
 برابر آہو۔ سوی سوزوی مال تہ سوزیہ توتہ نس نہ سوما ہرگز قبول کرنہ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا

الَّذِينَ يَبَاكَرُوا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ إِنَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِّرْنَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

یہاں کتباً چنانچہ ہم دیکھیں شخصہ = تسخیرہ کرہ دن آیہ گرفتار کرنے پندہ ثمن بد اعمالین ہمدہ سببہ۔ نصیحت نہ ماننے وچہ۔ لہذا شراب من حیثہ و عذاب الیہ یباکر کافر و کفر جہدی چہہ خطیرہ آسہ آخرتس اندر پہنچ کر یکہ دودون زہر۔ تمہ علاوہ یہ کڈر عذاب کیا زہ تم آس کفر کران۔ ہمیک آکھ شاخ = آکھ لند توہین احکام اسلام اوس۔ قُلْ اَدْعُوا مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا فرمادہ کہ خبہ یارسول اللہ ساری سمان ہمدہ طرفہ کیاہ آس کردہ عبادت معبود ہر حقس وراہی تمہن باطل معبودن ہمز ہم نہ آسہ کانہ فائدہ ہمکن و اتناوت۔ عبادت کمر تھہ = نہ کانہ ضرراہ ہمکن و اتناوت تھہ عبادت نہ کمر تھہ و نرد علی اعقابنا بعد اذ ہدینا اللہ یہ چھانہنز خواہش آس کیاہ پھیر و پوت کفرس کن اسلام تراوتھہ خدلیہ سبہ آسہ ہدانت کردہ پتہ = و تھہ ہاند پتہ اتھہ دین حقس کن۔ کالذی استھوتہ الشیطان فی الارض حیران تھہ صورتس اندر تہ سان مثال کس شخصہ سزہش نئس بریم بریم چاکیو و تھہ راؤراؤمتر آسہ عنہ جنگلس منز = سؤ آسہ ہدنت حیران اتھہ و تھہ آس نئس نہ یوان ہمکن۔ لہ آصحب یدعونہ الی الہدی اثینا کس آسن ہند دوست = ہم ناداد آسہ نس دوان کہ دولہ آسہ کن و تھہ چھے پیار مگر سؤ آسہ حیرانی سببہ تھہد آلوے یوزان۔ نہ آسہ سیزہ و تہہ پینچہ یوان۔ کیاہ تھہنز خواہش چھا آس = گوہو تھہی ہن۔ = ہہ نہ ہرگز قُلْ اِنَّ هٰذِی الْاٰیٰتِ الْاَلٰهٰی الْاَلٰهٰی الْاَلٰهٰی فرمادہ کہ جہہ سبہ راہ۔ راست گنپہ سکوی و تھہ بلا سبہ اللہ تعالیٰ ان پاند ہامتر = ہامترہ تھہ سکوی و تھہ گنپہ دین اسلام۔ ہم یہ تراؤسؤ دول سیزہ و تہہ نئس۔ آس ہیکونہ عنہ صورتس اندر تھہ نشہ پھیر تھہ و اُمِّرْنَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ آس

وَأَتَقُوا ۖ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۶۲﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ
قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةُ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۶۳﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ

بتجہ پاٹھ آؤ شرک بخدا۔ اے حکم کرنے آؤ فرما بردار روڈن عالمین ہمیں پروردگار س وَاَنْ اَقِيْمُوا
الصَّلٰوَةَ وَاتَّقُوا ۖ یہ آؤ حکم کرنے آسہ کہ نماز تھادو برپا بندی سان۔ یہ آؤ حکم کرنے کہ کھوڑو
خدا ہنس۔ تہ شریک تھانہ تہ تسزنا فرمائی کرنے نہ روز وبتجہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سُو کو سُو
پروردگار ہنس برد تھجند توہہ سارنی حساب دنہ خیطرہ جمع پیہ کرنے، مشرک و تھجن پانے تھہ ڈوہنہ
مشرک منزہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ یہ گو سُو ہند ڈردگار سُو ہم آسمان تہ
زمین پیہ کمر پز پات مخلوقن ہمہہ فائدہ خیطرہ، بوڈ فائدہ تھو یوہے کہ ہم دوشوے تھہ تھمدی
مخلوق، دوشوے تھہ دلالت کران تھمدس وحدانتیس پیٹھ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ یہ ہمہ ڈوہنہ
ڈپہ سُو خالق کھل حکم کرہ قیاس ہند برپا۔ آتی سپہ قیامت برپا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ
فِي الصُّورِ تھمدیہ وَاَنْ تھو باثر۔ توہندی تھو ملک۔ تھزی تھہ پادشاہت۔ ہمہ ڈوہنہ پوٹس منز
دوہم پھو کہ پیہ دنہ تھی ڈوہنہ تہ حکومت اللہ تعالیٰ سنز۔ یلہ سُو فیصلہ کرہ موحدن تہ مشرک منز۔
عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ سُو تھو زان وَاَنْ تہ سوزوی یہ کھنٹتھہ تھو مخلوقن نہہہ تہ سوزوی تہ نون
تھو مخلوقن نہہہ۔ تہ نہہہ تھو نہہہ کھنٹتھہ کانہہ چیز۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سُو تھو سینہہ تھمدہ دول
تہ سینہہ زان دول۔ تہ تھہ سارچی ٹورہ تھہ۔ مضمون آیات قرآنیہ سیت تھو معلوم سپہ ان کہہ
حضرت ابراہیم ہند قوم اوس بت پرستی تہ کران۔ یہ اوس بتازن آفانس تہ زونہ تھہ پرستش
کران۔ تھن دوشون خیالن ہند زد کور حضرت ابراہیم۔ تھہہہ تھو اللہ تعالیٰ یمن آیات کریم اندر
ذکر فرمادان وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ یہ تھو سُو وقت تہ تھہ پوٹس قابل یلہ حضرت ابراہیم

اتَّخِذْ أَصْنَامًا إِلَهًا ۖ إِنِّي آرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۴۶﴾
 وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ
 مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۷﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا ۖ قَالَ هٰذَا
 رَبِّيْ ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ﴿۴۸﴾ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِعًا
 قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَآ كُوْنَنَّ
 مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿۴۹﴾ فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بَازِعَةً ۗ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ

دوپ مہس پنہ نس، آذر نھس تانوس اتَّخِذْ أَصْنَامًا إِلَهًا ای آذر کیا تھہ چھو کھ پو تل زمان معبود
 بنن سم پانے کران چھو بھہ اِنِّي آرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ نو چھو سٹھ وچھان تھہ نہ یہ چون قوم،
 سم تھہ اتھہ اعتقادس اندر مؤلفن چھی نہ گرا ای اندر۔ شو بیاناس اشرف المخلوقات آتھہ بے جان
 چیز بنن معبود ذان۔ وَكَذٰلِكَ نُرِيٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اتھہ
 پاٹھہ حضرت ابراہیمس ہاؤلسہ بت پرستی ہنز خرابی نہ نطلان۔ چھہ پاٹھہ ہاؤلسہ تس آسمان و زمین پادشہت
 تھہ سوسپدہ کامل عقیدہ والیو اندرہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ چنانچہ بلکہ رات
 تھن پنیجہ تاریک سہز۔ وچھہ تھو تازگاہ اکھ۔ پنہ نس قومس لگ وندہ یوسے چھامیون نہ تھند رب چھہ
 خیالہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ دوہن نو چھو سٹھ نہ تھند کران لوسون چیز۔ سم تھن نہ کانسہ
 ہدرب آتھہ فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بَازِعًا تھہ پتہ بلکہ تھہ وچھہ زون زوتان نہ پتہ کران قَالَ هٰذَا رَبِّيْ
 تھو پتہ تھہ قومس لاسے چھامیون رب تھہ خیالہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَآ كُوْنَنَّ مِنَ
 الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ نھس بلکہ سوتہ لوس دوچھہ ہر گاہ نے میہ پروردگار تھہ ہادہ ہے تلہ ہندہ ہاؤلسہ تھہ پاٹھہ
 گمراہ لو کو اندرہ۔ فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بَازِعَةً نھس بلکہ رات گوجھہ دوہ آؤتہ آفتاب وچھہ تھو شولہ ماران
 کھسان قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَا الْكَبْرُ دوکچہ لاسے آسہ میون رب تھہہ خیالہ کیا زہ یہ چھو بوڈوی تھن
 بنن ستارن ہندہ خود۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ نھس بلکہ سوتہ لوس قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَآ كُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ دوکچہ

هَذَا الْكِبْرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِرَانِي بَرِيٌّ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۵۰﴾
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا
 أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۵۱﴾ وَحَاجَّه قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ
 وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا
 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۲﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا
 أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ

اے قوم بے شک بوجھوس بیزار تمہو ساروی چیز و نیشہ ہم نہہ معبود برحق شریک جھو کہ ٹھہر لو ان
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ہر پاتہ نو پھیرس تس
 معبود برحق سن ہم آسمان ۽ زمین گوڈنی پیدہ کور۔ ساروی اپڑیو و نیو نیشہ الگ سپد تھہ یہ جھوس نہ
 نو ہر گو ٹھہر پانچہ خدائس شریک آنہ و نیو آندہہ وَحَاجَّه قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ تو
 پتہ آؤ تھن نیشہ بحث کرہ قوم ٹھہر۔ تمہو دیکھہ ای قوم کیا نہہ جھوہ بہان بحث لائہہ میہ سیت خدایہ
 سہرس تو حیدس آندہہ۔ حالانچہ تم کور میہ ہدایت ۽ وجھہ ہونم توہہ ہر دتھہہ صحیح دلیل پیش کرنس سن
 بلاسہ میہ پیش کمر وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ میہ مہ بہو کھوڑناوہہ۔ میہ جھو نہ کانہہ پروا تھہرین
 معبودان باطلن ہند۔ ہم نہہ لاشریکس شریک جھو کہ ٹھہر وان۔ تم ٹھکن نہ میہ کینہ کمر تھہ میہ یہی نہہ
 کانہہ تکلیف واتھہ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا مگرے کنہہ یڑجہ میون پروردگار وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ
 عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ واتھہ جھو میانس پروردگار ہند علم پر تھہ چیزس۔ تس جھہ قدرت کاملہ ۽
 علم کامل تھہرین معبودان باطلن نہ قدرت ۽ نہ علم۔ میہ تھہ جھوہ کھوڑہ نادان۔ مگر انسانس لیہ وضاحت
 پتہ ۽ جھوہ ناہہ نصیحت رہان وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
 تھن آتھہ جھو نہ کنہہ۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا حالانچہ کھوڑن
 ہڑہ ہاتوہہ مگر نہہ جھوہ نہ کھوڑان پتہ نس ہڑس جہرس۔ کیا زہ وہہ ٹھہر وہہ ٹھہس خدائس شریک نس

سُلْطَنَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
 وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۸۲﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۸۳﴾ وَهَبْنَا
 لَكَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ

شریک آسنہ نش چھو مزہ نہ پاک تھے شریک بنھدس شریک آسٹس پوٹھ نہ خد لکن کانہہ دلیلاہ نازل کر مڑھجھ۔ یہ دلیل لازتھہ ونحو دارہ نامل کمر تھہ **فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** سمودو لو جماعتو اندرہ یعنی مشرکو نہ مؤجد واندرہ کوسہ جماعت چھہ انیس نہ بے غونی زیادہ مستحق و نوتو ہر گاہ تو بہہ کینہہ خیر چھہ یا کینہہ زانان چھہ خبہہ کیاہہ بنحو و تھہ۔ اس دنودہ یوزے دارہ بوزو۔ **الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ** تم لو کہہ سموا ایمان اون معبود بر حقس تو پتہ ملہہ نوونہ تموا ایمان بنن شرکس سیت تھے گئے تم بہدہہ خیطرہ چھہ قیامتک دوہ امن نہ دلک قرار۔ یہہ چھہ تھے دنیاہ اس اندر سیزہ و تہہ و تھہ۔ صرف مؤجد، ہتھہ رود مشرک چھہدہہ خیطرہ و تہہ قسمہ امن والمان چھونہہ **وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ** سے تھہہ سائہہ تھہہہ دلیلہہ سمہہ اسہہ عطا کرہہ حضرت ابراہیمس پتہہ اس قومس سیت بحث کرنہ خیطرہ۔ چوچھہ سمہہ دلیلہہ کرہہ اسہہ عطا حضرت ابراہیمس تھیہہ موکہ چھہ سمہہ رتھہہ دلیلہہ **نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ** حضرت ابراہیمہ سزہ چھہہہ کانہہ خصوصیت بلتھہ چھہہ اس ہند کران علمی و عملی درجہ، مرتبہ جہوند، لئند اس یڑھان چھہہ۔ پڑھتھہہ پھون پروردگار چھو سیشاہ حکمتہہ دول، سیشاہ زانن دول۔ پرتھہہ لئند حال یہہ استعداد چھو سونو پارہہ زانان تھیہہ موجب چھو پرتھہہ اس سو کمال عطا کران لئس لئس مناسب اسہہ **وَوَهَبْنَا لَكَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ** بیہ کور عطا سمہہ حضرت ابراہیمس اکھہ فرزندہہ، حضرت اسحق، بیہہ اس فرزندہہ سہہ فرزندہہ حضرت یعقوب علیہم السلام **كُلًّا هَدَيْنَا** سمن سارنی کور اسہہ ہدایت۔ پڑس لئن ہاواسہہ و تھہہ تمن **وَنُوحًا هَدَيْنَا**

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۳﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيلَىٰ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۴﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۴۵﴾ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۶﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِه مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ وَلَوْ

مِن قَبْلُ یہ کورسہ ہدایت نوحس یمن بردنخہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ حضرت ابراہیمؑ سنبودی اولادو منزہ کزاسہ ہدانت، داؤدس یہ حضرت سلیمانؑ یہ حضرت ایونسؑ یہ حضرت یاسسؑ یہ حضرت موسیٰ اس یہ حضرت ہارونس علی میرا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ شتھے پانچہ بھی اس مناسب بدلہ تہ جزاء ودان نیکوکارہندان وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِيلَىٰ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ کور ہدانت اسہ حضرت زکریاؑ اس یہ حضرت عیسیٰ اس یہ حضرت الیاسؑ ہم ساری آس رتوبندواندرہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ یہ کورسہ ہدایت حضرت اسمعیلس۔ یہ حضرت یسحس یہ حضرت یونسؑ یہ حضرت لوطس۔ ہم ساری دنت اسہ فضیلت نبوتہ بیت تمہ وقتہ کین عالمین لوکن پوتخہ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ یہ ہند یومالیو، پڑیو اندرہ یہ اولادو اندرہ یہ بانواندرہ یہ کورسہ وارہن ہدایت دتن حقس کن۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ کورسہ ہم ساری بر گزیدہ تہ مطبول۔ یہ کورسہ ہم ہدانت سزہ دتہ کن یعنی دین حقس کن ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِه مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ یو ہے دین نتخہ کن ہم ہدایت کرنہ آؤ۔ یو ہے گوخدا یہ سند ہدایت۔ اتخہ کن چھو اللہ تعالیٰ وتخہ ہادان ہم یشھان چھوپتہ نیوبندواندرہ اتخہ کن ہاؤے یہ وتخہ اللہ تعالیٰ آن ساری لوکن مگر بھصیہ کمر نہ یہ وتخہ اختیار۔ تمونھراو خدا نس شریک۔ شرک چھو اللہ تعالیٰ اس نتخہ

أَشْرِكُوا لِحَيْطٍ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ
 فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿۱۸﴾ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ آتَدَاهُ قُلُوبٌ لَّا
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۹﴾

۱۷۔ عام لوکن ہنز کیا، جمعہ تھی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَيْطٍ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہر گاہ بفرض حال تم حضرات انبیاء پر نعوذ باللہ شرک نہ تھی خدا تم سے نہ ضائع تمہ سارے رتہ کامہ سمہ تم کران آس امہ شریعہ وجہ۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ہم حضرات انبیاء یمن ہنز ذکر کرنے آئے تھے تم سے تم سے مجموعی طریقہ کتاب شریعت سے نبوت عطا کرے فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ تمہیں اگر نظیر موجود آتے ہم منگے لو کہ اتھہ تھیں نبوتس انکار کرن، کرتن، تمیک۔ بھر وجہہ کا نہ غم توہمہ چھوہہ سے کہیںہ۔ کیا زہ پز پات آسہ چھوہ امہ خیطرہ مقرر کر مڑا کہ جماعتھہ ہم نہ ہرگز اتھہ نبوتس تھیں انکار کرن۔ بلکہ زامن امہ سچ ہار قدر۔ تم گے مہاجر سے انصار۔ یہ تمہ ہند بید قیامتس ہم اُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ آتَدَاهُ ہم حضرات انبیاء گے تم ہندگان خاص سے اللہ تعالیٰ اَن ذُشمن ہنز ان تھیں تو تھہ صبر کرنس کن ہدایت کور۔ تمہ ہنز ہی ذہہ پھو تھہ سے صبر کرنس اندر قُلُوبٌ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا یہ سے فرمایا کہ تھہ یارسول اللہ ای لو کویا تھوس نہ منگان توہمہ امہ تھیلہ سے رہنمائی خیطرہ کا نہ مزوریاب۔ بلکہ پھوسوہ بو بے غرض نصیحت کران اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھوہ نہ مگر عالمین ہندہ خیطرہ بوڈو عظ سے نصیحت، سمکہ مانہ بیت تو ہی بوڈو فائیدہ سے نفع چھوہ۔ نہ مانہ بیت تو ہی سخت نقصان چھوہ۔ اکھ بہودیہ اکھ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدس اندر۔ تمی ہیوت تمہ سے بیت نہ ہی گفتگو کرن تھہ اندر لوس سو تھہ تھہ کران جوش اندر لوگ فَبِهِدَاهُمْ آتَدَاهُ اللہ تعالیٰ اَن چھوہ نہ از

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدْرًا إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا
مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا
هُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا
وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تَمَّ ذَرَّهُمْ فِي

ہام کا نہ کتابے نازل کر مٹ۔ اتی سپہ ایم آیات کریمہ نازل وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدْرًا إِذْ قَالُوا
مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ یہی کر نہ سمجھو معجزہ خدا یہ سزا کا نہ قدر۔ اڑھ قدر کرن شو بہ ہ۔
کیا زہ تم دوون اللہ تعالیٰ ان جھہ نازلے کمر مٹ کا نہ بشرس پٹھہ بن کا نہ کتاباہ۔ یہ دن گو خدا بس
نسبت بے قدری کرن۔ کیا زہ امہ سیت جھو لازم یوان نبوتس انکار کرن نئس نبوتس انکار کرہ تم زون
اللہ تعالیٰ سند فرمان اپز نعوذ باللہ۔ ہوس تصدیق نہ تسلیم کران جھو واجب نمی سیت جھہ یوان خدا یہ
سزا قدر کر نہ۔ لہذا سمجھو تصدیق و تسلیم بدل بکذب و انکار کور۔ تمو کر بے قدری یہ گو امیک تھیتی
جواب۔ امہ پتہ جھو اللہ تعالیٰ فرماوان امیک الزامی جواب قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ
چہ پر ڈھتو کہ اکی ہو دو حضرت موسیٰ نے کہ کتاب جتھہ آوی یعنی تورات سو کم کمر نازل نُورًا وَ هُدًى
لِّلنَّاسِ صحیح کیفیت یہ جھہ کہ سو بذات خود لوزک پانھہ واضح نہ روشن سمین لوکن ہمہ ہدایتہ خیطرہ
سو سوز نہ آہ تمین لوکن ہمہ خیطرہ جھو سوز لاؤ ہدایت يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ہا نہ کتاب تھہ پنہ
نیو نفسانی اغراضو موکھہ ورقہ ورقہ کر دن يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا نئس ورقاہ پنہ مطلب براری
خیطرہ جھو خوش کران۔ سو جھو ہوان نہ ظاہر کران۔ کھٹھہ نہ پاشیدہ جھو تھوان تمہ منزہ واریاہ
جھہ۔ جتھہ منز تھہ س مطلبس خلاف چھو کینہہ آسان مثل نعت پنمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم
وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ یہی اووہ تھہ کھہ ناونہ تمہ تور سمجھہ ذریعہ سو علم نئس۔ نہ زازہو تھہ
نہ جھہ مال نہ بڈبب سو تورات نازل سپ نہ بر و نٹھہ قُلِ اللَّهُ يُوْرِي فَرَادًا كَمَا يَهْدِي تھہ کہ اللہ تعالیٰ نے
کمر سو کتاب نازل لہذا امہ تھہ جھو توبہ یہ ومان کہ اللہ تعالیٰ ان جھہ کا نہ کتابے نازل کمر مٹ
ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ یہ جواب لاوز ناونہ پتہ تراویو کہ تم پنہ نئس شعلن منز۔ اپزن تھہ نہ

خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بِبَرَكَاتٍ مُصَدِّقٌ لِّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ
أظلم مِمَّنِ افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلىَّ ولم يُوحَ

بیسودہ کا مین سیت روزن تم مشغول۔ توہہ پڑھتے یہ فرض اوس ہے انوہ توہہ بہاوتن منہ بزر و نجهہ کا جہہ فخر
بو بوزہ پائے تم سیت ﴿٩١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بِبَرَكَاتٍ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ جتھہ پاتھہ تورات اسی
نازل کورنت اوس۔ جتھہ پاتھہ جتھہ یہ قرآن مجید ہے کتاباہ نوسہ اسی نازل کمر توہہ پڑھتے یا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم۔ نوسہ خیر و برکے کتاب جتھہ۔ نس اکھاہ جتھہ پڑھ کرہ۔ تمہہ موجب عمل کرہ تہسیدہ خیطرہ
جتھہ فلاح دارین۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید جتھہ تصدیق کرہ ان تم کتابن سمہ ائمہ برو جتھہ نازل
کرنہ آثرہ۔ لہذا جتھہ یہ قرآن مجید دو پو کتھو خیطرہ نازل کورنت۔ کتھہ مخلوقن بہدہ فقہ خیطرہ یہ تم
کتابن بہدہ تصدیق کرنہ خیطرہ کہ تمہہ کتابہ جتھہ بے شک خدایہ سندی طرفہ نازل کرنہ آثرہ
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا یہ جتھہ جتھہ خصوصیتہ سان کھوڑہ ناویو کہ مہہ شریک لو کہ۔ یہ سم
جتھہ اندلہ جتھہ تمام عالم لو کہ کیا زہ میں جاہہ جتھہ اللہ تعالیٰ فرماوان یُنذِرُونَ لِلَّذِينَ نُوذِرُونَ جتھہ
سوعالہ کین لو کن کھوڑہ ناوہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ساری لو کہ اگرچہ تمہدہ
انذارہ یہ تیم کرنہ سیت ایمان ان نہ لیکن تم لو کن آخرت پور پڑھ جتھہ تم جتھہ اتھہ قرآن مجید س پڑھ
کران وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہ جتھہ تم ایمان اتھہ پنہ نین نمازن پڑھتے ڈا کران۔ پابندی
سان پانڈوے وقت پورہ اوا کران۔ کیا زہ ایمان و اعتقاد س سیت بلہ عمل یہ مکمل آسہ تلہہ جتھہ عذابہ
بہہ نجات لہہ جتھہ امید وَمَنْ أظلم مِمَّنِ افترى على الله كذباً یا جتھہ نس اکھاہ جتھہ پڑھتے ظالم تس شخصہ سیدہ
خوہہ سم اپز نو و رو معبود بر جتھہ نبوتس انکار کرنہ سیت جتھہ پاتھہ سمو بہو و کو کور تمودوپ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّمَّنْ شَيْءٌ اللَّهُ تَعَالَىٰ ان کورنہ کانسہ بشرس جتھہ کتھی نازل أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ

إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ
 الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا
 أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
 غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا
 فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 وَمَنْ نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفْرَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ

یُوخَّ إِلَيْهِ شَيْءٌ ۖ مَنْ كوزن چند حقد و دعوی نبوت۔ دشمن مدعیان جھلوجھی بیان نازل کرنے حالاً جہ سے
 کُن لَوْس نہ کانسہ و حیاہ نازل سپدان مثل میلہ کذاب وغیرہ ۖ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ شے
 پانچ تہہ جھلویو ظالم تس شخصہ سبہ خود ہم دوپ بوتہ بوجہ نازل کمر تہہ ۖ لَوْ كُنْ بِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلٍ
 پانچ تہہ جھ پانچ خدا جھل نازل کران۔ کانسہ اکھاہ جھلوتہ ۖ تَمَنُّ لَوْ كُنْ بِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلٍ خَيْرٍ
 الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ ۖ تَمَنُّ ظالمن ہند حال جھلویو سبہ اگر وہ شخصہ ۖ ۛ
 وقت سبہ سبہ ہم ظالم آسن موتہ چہ ۖ تَمَنُّ اندر بیتلا، رُوح کڈہ دن ملا یک آسن پنن اتھہ مودہ رات تہن
 ظالمن کن و تان۔ ۖ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ ای ظالمو جلد بکن کڈہ کھ پنن رُوبنہ نیو پانو اندرہ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
 عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۖ اَزْكَى دُوبنہ کیا لہ توہہ
 مرنس سیتی سزاوتہ۔ خواری ہندہ عذابہ سیت۔ کیا زہ تہہ آسبہ ناخدا تہس نسبت تہہ تہہ لاگان سبہ
 بالکل آڑہ آسہ آسان۔ ہیر آسبہ تہہ جہہ آیات مانہ تہہ ۖ تسلیم کرنے تہہ جہہ ظہر کران
 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ سبہ دُوبنہ قیامت سبہ تہہ دُوبنہ فرماو کجہ اللہ تعالیٰ
 آوہ تہہ آسہ تہہ پولا کہ۔ تہہ تہہ تن تہہ۔ یارن ۖ مدد دگان و رای۔ تہہ پانچہ آسہ تہہ گوڈ تہہ تہہ
 دُنْیَا س اندر پیدہ کرمست آسبہ تہہ ۖ تَمَنُّ ۖ تہہ نئی ۖ تہہ داری ۖ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 ہیر تروہ ۖ سوزوی ہیر آسہ توہہ دتھت اوس پانس جھہ کُن۔ ۖ وَمَنْ نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفْرَ الَّذِينَ

لَقَدْ نَقَطَعُ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۷﴾
 إِنَّ اللَّهَ فَلَقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
 الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۱۸﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ
 جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ﴿۱۹﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي
 ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾

وَعَبَّئْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ مُشْرِكُونَ ۖ يَا مُحَمَّدُ أَسْ وَجْهَانِ تَوْبَهُ سَيِّتِ تَمَّ لَوْ كَسِمَ تَوْبَهُ بِحَبِّ كَمَانِ زَانَانِ أَسْبُوكْ هِنَ
 نَمِينِ كَامِينِ ائْتَدِرْ خَدَايَه سِدْ شَرِيكَ كَلْبِيَه جَهْوَه تَمَّ - لَقَدْ نَقَطَعُ بَيْنَكُمْ پَرِيَاثِ جَهْلَه كَنِيَه تَمَّنِ سَارِي تَعْلَاقَاتِنِ
 يَمِ تَوَه پَانَدَانِ اَسْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ضَائِعِ سِدْ تَوْبَهُ رَجْهَه ۖ سُوْرُوِي يَه تَوْبَهُ كَمَانِ
 اَسْ كِه مَعْبُودَانِ بَاطِلِ كَرْنِ اَسْ شَفَاعَتِ اِنَّ اللَّهَ فَلَقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى پَرِيَاثِ اَللّٰهُ تَعَالَى جَهْوِ پَچَاہ
 اِنِ پَرِيَاثِ مَجْلِسِ ۖ اَنچِه لَاسَه زَمِيْنَسِ مَزُوْدَه يُوَانِ چَه يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَنُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
 سُوِي جَهْوَكُذَانِ زَمْدَسِ مَرْدَسِ رَجْهَه مَرْدَسِ زَمْدَسِ رَجْهَه ذَلِكُمْ اَللّٰهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۖ لَاسَه كِيَاہ كُو مَعْبُودِ
 بِرِ حَقِ نَسِ كَتَه پَاثَه جَهْوَه نَجْهَه نَسِ پَرَه كَرْنَه نَشَه كَرِيْزِ كَرَانِ ۖ ذَلَا نِ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ سُوِي جَهْوِ صُحِ پَچَاہ
 رَاوَه اِنِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۖ يَه كَرَاتِ تَمِي اَرَاكْ وَتِ كِه سَارِي جَهْوَه
 نَحْبِيْتِ ذِ حَبِيْتَه شُوَه سَيِّتِ اَرَلَاہ حَاصِلِ كَرَانِ - يَه كُوْرُنِ اَقْرَابِ ۖ زُوْدَه بِنْدَرِ فَا رِ حَاصِبِ مَوْجِبِ
 سَمِي سَيِّتِ وَتَمَّنِ بِنْدَسِ ضَبْطُورِ بِلَسِ اَنْدَرِ اَسَانِي جَهْوَه سِدْ اِنِ ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۖ يَه جَهْوَه اَنْدَازَه
 ۖ كَارِ بِيْگَرِي، نَسِ خَدَايَه سَزْنَسِ غَاِبِ ۖ سُوْرُوِي زَانِنِ دَوْلِ جَهْوَه - وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ
 لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ يَه جَهْوَه سُوْرُوِي سَمِ سِتَاْرَه كَرِ پِيْدَه نَجْهَه نَجْهَه وَتَه لَبُو كَرِ كَشِنِ
 اَنْدَرِ خَشَكِي بِنَزْنِ وَتَمَّنِ ۖ سَمْنَدَرِنِ اَنْدَرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۖ تَمَّنِ اَسْ كَرِهَ پَنَدَه تَوْحِيْدَه
 چِه - دَلِيْلَه بِيَا نِ دِيْ رَه نَاوَه تَمَّنِ لَوْ كَرْنِ بِنْدَه خِيْطَرَه سَمِ زَانَانِ جَهْوَه رُتِ كِيَاہ جَهْوَه ۖ يَه جَهْوَه كِيَاہ جَهْوَه وَهُوَ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا
 قَدْ قَصَلْنَا الْأَيْتَ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ۝۱۵ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
 وَجَبْطٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ
 مُتَشَابِهٍ ۚ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ

الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ یہ گو سُو پروردگار سُوی ہم خہ ساری پیدا کر داکسی شخصس نبہ
 سُو کو حضرت آدم فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا نَس کر نخبہہ خیطرہ آکھ قرار چ جاہاہ۔ سُو گو ماہہ
 ہند ر ہم۔ چہ دان۔ تھہ منز کبہہ کالاہ روزت چھو انسان دنیاہ ک اثر قبول کران یہہ کرن امانت تھو چ
 آکھ جاہاہ سو گنہہ قہر تھہ منز کینہ کالاہ روزت چھو آخر تک اثر قبول کران قَدْ قَصَلْنَا الْأَيْتَ لِقَوْمٍ
 يَفْقَهُونَ پڑ پات اُسہ کمر آیات ہن بیان نور او تھہ تم لوکن ہندہ خیطرہ ہم کبھدار چھہ۔ وَهُوَ
 الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ یہہ گو سُو پروردگار سُوی ہم زود ترود آسماہہ
 طرف نَس کھار اُسہ ہمہ زودہ سیت زمینہ منزہ پر تھہ قسمک کُلِّ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَس کو ڈا سہ ہمہ
 زمینہ منزہ سبز سبز شاخ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ہمہ منزہ چھو اَس کڈان لوکت لوکت دنہ ہم آکھ اَس
 وَجَبْطٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ یہہ کڈا سہ خضرہ کلیہ آند ر ہ تمن ہند یو پوشہ
 نور یو آند ر ہ خضرن ہند ر ن ہم بلان گن نے بت آسان چھہ وَجَبْطٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ یہہ کھار اُسہ تمی زودہ سیت دہ چھہ باغ۔ یہہ زہون باغ۔ یہہ دنن باغ ہم
 آکھ اَس ہی چھہ آکھ اعتبارہ آکھ اَس ہدل چھہ یہہ اعتبارہ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ وارہ دچھو
 پر تھہ کلہ کس میوس گن۔ بلہ تھہ میوہ لگان چھو ہمہ سادہ چھو آسان بد مزہ تہ ناقابل استعمال ہمہ پتہ
 بلہ سُو میوہ ہپان چھو ہمہ سادہ چھو آسان مزہ دار سینٹاہ فاسیدہ مند۔ اُسہ منزہ تہ چھہ ننان خد لہ سز

لَا يَتْلُو الْقَوْمَ يُؤْمِنُونَ ﴿۹۹﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
 وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَدَتْ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۰۰﴾
 بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
 صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾
 ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ

کمال قدرت اِنِّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وچھو پڑ پانھہ سمن چیزن اندر رھتے توحید چہ عجب عجب
 ذلیلہ با ایمان ہمدہ خیطرہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَبَدَتْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 ٹھہراوہ لو کو شیطان خدایہ سبہ شریک حالہہ تم بہ چھہ کرمت اللہ تعالیٰ نئی پیدہ۔ یلہ نہ پیدہ کرہ ان
 ٹس وراہی کانہ چھو۔ معبود تھہ پانھہ پانھہ ٹس وراہی کانہ آتھہ۔ یہ ٹھہراوہ لو کو خدائس پنچو بہ کو بہ زانہ
 بہ پھانہ وراہی از ٹس جمل و نادانی سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ منزہ بہ پاک چھو سُو پروردگار سمنو سار
 وی ٹھہراوہ نہ چھو س شریک کانہ نہ چھو س پنچو نہ چھو س کورہ۔ یہ چھو سینچاہ ہند بہ بالاتھو ٹھہراوہ
 سہہ ٹس گن لو کھہ لاگان چھہ بے دلیل بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُو چھو موجد بہ گوڈہ پیدہ کرہ ان
 آسمان بہ زمین ہند ٹس وراہی چھو نہ آسمان وزینک موجد کئی۔ لہذا ٹھہراوہ سُو معبود برحق اَنَّى يَكُونُ
 لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ٹس تھہ پانھہ آسن لواد۔ حالہہ ٹس چھتہ آسمو آٹھنی زانہ وَخَلَقَ كُلَّ
 شَيْءٍ تمی کور سوزوی پیدہ۔ تھہ پانھہ آسمان وزمین پیدہ کترن تھہ پانھہ کترن تم بہ پیدہ سمن تھہ چھہ
 اولاد یا شریک چھو کھ ٹھہراوان۔ بنیا کہ خالق آسن مخلوق شریک۔ تھہ کیاہ فرق روزہ خالقس بہ
 خالقس منز وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یہ چھو سُو پر تھہ چیزاہ بارہ بارہ زانہ ان ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سہے معبود برحق کیا چھو ٹھہرا پروردگار۔ کانہ معبوداہ چھو نہ ٹس وراہی خالقِ كُلِّ شَيْءٍ
 فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكَلِيمٌ سارہ کوی پیدہ کرہ ان چھو سُو ٹس کتر و جہزی یا تھہ عبادت بہ بندگی۔
 سُو چھو پر تھہ چیزک کار ساز۔ ٹس وراہی چھو نہ کانہ بہ کار ساز حقیقی۔ لہذا اگر تسغزی یا تھہ عبادت کرد

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۶﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
 الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۷﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ
 رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
 بِحَفِيظٍ ﴿۱۸﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيُقُولُوا دَرَسْتَ

سُو داتا و وہ سیٹھا نفع ۾ فائیدہ۔ بین ہنز عبادت کر تھ کیاہ فائدہ نیو۔ تم کیاہ دنوہ۔ تمن اچھہ کیاہ
 ہتھو۔ خالق ۾ ہتھو سُو۔ علیم ۾ ہتھو سُو۔ وکیل ۾ ہتھو سُو۔ ہم ساری چیز ہتھہ منگان کہ معبود ۾
 گوہہ سُو آسن۔ جندوی شان ہتھو کہہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
 الْخَبِيرُ کس بیکن نہ وہجت۔ وہجتہ پتہ حقیقت دریافت کر تھ، لوکن ہنزہ اچھہ دنیاہ س اندر۔
 آخر کس اندر وہجتن کس با ایمان جنس اندر۔ مگر حقیقت ۾ ماہیت سپدہ نہ تمن ۾ دریافت۔ سُو ہتھو پانہ
 تمن ساری اچھن ۾ اچھہ والین و چھان ۾ ہنزہ حقیقت ۾ ماہیت زمانہ سمہ اچھہ نہ تسد ادراک کر تھ
 بیگان ہتھہ ساری ہتھہ تمی پیدہ کر مت۔ کس ہتھہ خبری کہ کس چیز ہتھہ ہتھو میہ پیدہ کور مت کہہ چیز ج
 کیاہ حقیقت ہتھہ۔ بعضی مفسر و فرمود کہ مخلوقن ہنزہن اچھن منز ہتھونہ یہ قوت ہتھہ کس کیاہ بیکن وہتھتھہ۔
 مگر سُو چھو لطیف، ازراہ لطف و مہربانی ہر بچہ سُو کاسہ ہنزہن اچھن اندر سُو قوت پیدہ کرت سمہ سیت سُو کس
 وہتھتھہ بیچہ۔ با ایمان ۾ کرہ جنس منز سو قوت عطا سمہ سیت تم ۾ وہتھن پنہ کس خدا کس۔ سُو ہتھو
 ساری و چھان۔ کیازہ سُو ہتھو خبیر۔ کس ہتھہ خبرے کس شخص کیاہ ہتھو کسنز حقیقت کیا ہتھہ قَدْ
 جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ پز پاتہ واژہ توبہ ہتھہ دلیلہ پنہ کس پروردگارہ سبہ طرفہ توحید و رسالت
 کس حق آسن ہتھہ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ کس شخص تمن
 دلین منز غور و فکر کرنے سیت حق ۾ پوزدر ہتھہ آو تھیک فائیدہ ہتھو کس پانس۔ یہ ہم ان لوگ تمن
 دلین کن کوزن نہ توجہ ۾ نظر تھیک ضرر ۾ نقصان ہتھو کس پانس۔ لو ہتھو کس نہ توبہ پینہ رہتھہ۔ مجبور
 کیاہ کردہ لاوارہ وہتھن ہتھہ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ کسے پانہ ہتھہ اس توبہ پھیر پھیر پنہ دلیلہ

وَلْيُبَيِّنَ لَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۵﴾ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۷﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا وَإِغْيَارٍ عِلْمٌ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ تَم

مختلف طریقوں بیان کران۔ اُنھہ تجہ ساری لوکن و اتنا و۔ و لیسقو لوا دوسنت تمن سپدن زہ جمائ۔ تمہ اندرہ ضدی۔ مذہ تم ذہن ہم پیغمبرن چھو سبق پادرسنت کسٹاں تجہ۔ ورنہ ہم تھہ مضامین تھہ کن پیغمبر ہایہ بیان کر تھہ و لیبینہ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یہ اُنھہ وارہ وضاحت کرو اس زان والین ہمدہ خیطر۔ یعنی کچھ دار۔ انصاف ہمد لوکن و تھہ سپدہ واضح۔ روشن۔ تمن ژکن ساری شک۔ شہبات۔ اتبعم ما اوحی الیک من ربک لا الہ الاہو و اعرض عن المشرکین تجہ روز پانہ بیروی کران تھہ یہ توبہ کن وحی چھو پوان سوزنہ تجہ جس پروردگار ہمدہ طرفہ یارسول اللہ۔ اُنھہ منز چھو لود چیز یہ اعتقاد تھلان کہ کانہ معبوداہ چھونہ اس ذات پائس و رای اُنھہ و تھہ قائم روز تھہ۔ منہ کرو کانہ توجہ مخر کن کن کہ تمن کیاہ گو تمن اون نہ ایمان و لو شاء اللہ ما اشركوا تمیک وجہ چھو ای کجہ ہر گاہ خدا بڑھہ ہا تم لوک انمن نہ شرک و ما جعلناک علیہم حفیظا یہ ہمز کمر و نہ اسہ تجہ جہد رلجہہ نگہبان و ما انت علیہم بوکیل یہ چھو نہ تجہ تمن ہمد ذمہ دار۔ جواب دہی کرہ دن۔ توبہ چھو منہ فقط تمن تبلیغ کران سان پیغام و اتنا و و لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ ای مسلمانو تجہ۔ مہ آسولیکہ ژاران، بدوان۔ تمن معبودان باطلن بمن ہم مخرک معبود بر حق ترا و تھہ عبادت تھہ کران۔ کیاہہ تمیک نتیجہ نیرہ فیسبوا اللہ عدا و ایغیاری علیہ تم۔ ژاران لیکہ معبود بر حقس حدہ لہجہ تھہا و ذکر تھہ جملہ۔ تہ بے علمی سبہ۔ کذا لک زینا لکل امة عملہم اسہ چھو تھہ پانہہ پر تھہ کمنہ جماعتس چندہ چندہ کامہ زینت ذیوست تھہ پانہہ تجہ و چھان چھو تجہ دنیا س منز کوم تھہ پانہہ جاری۔ یہ دنیا چھونہ

إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۸﴾ وَأَقْسَمُوا
 بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلُوبُ
 إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا
 يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۹﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا
 بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذَرُكُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۱۰﴾
 وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمَ الْبَشَرَىٰ
 حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

دارالکافات۔ بدلہ سے سزا دینا کہہ کرہ ﴿۱۰۸﴾ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو پتہ بخو
 چانی پروردگار سے بشرہ تم ساری رجوع کرنا۔ سو وہ تم پالے تمہی سار کوئی پتہ تم کر ان آس تو پتہ
 دیکھ سزا۔ جبہ مہر و کاندہ غم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سب سے کھڑو ہوا سخت قسم خدا سے سب سے نہایت
 زورہ سان کہہ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا ہر گاہ تم بشرہ دل سے کہہ فرمائیںشیں مجزہ سے نشانہ تم ان
 ضرور تمہ ایمان۔ قُلُوبُ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ جبہ فرماو کہ جو اب کہ ساری آیات چھ خدا سے
 آتمہ۔ مہی آتمہ بخو نہ کنہی۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ تو پتہ کہہ چیز زاز اوہ تو ہیہ
 یہ تمہ کہ ہر گاہ سونشانہ سے سو مجزہ سے تم بشرہ دل سے۔ تو پتہ سے ان نہ تم ایمان۔ اسہ چھ لہج خبر۔ وَنُقَلِّبُ
 أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذَرُكُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ جبہ ایمان نہ
 لہجہ مہو کہہ بجز واس سے جبہ دل سے جبہ آپتہ سو مجزہ وہ بھت سے ان نہ تم ایمان چھ پاتمہ نہ ایمان
 او چھ سے پتہ کہہ اتہ قرآن مجید سے گوڈ بجز یہ۔ بیہ تر او کہہ اس تم پتہ سر کشی سے ٹرائی اندر حیران
 وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمَ الْبَشَرَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا یہہہ ہنارو
 سر کشی ہنہ کیفیت چھ پتہ کہہ ہر گاہ اس یہہہ فرمائیںہ مطابق تم کن سوزو کہہ ملا چھہ بیہ ہر گاہ ہم

اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۱﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
 عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
 زُخْرَفَ الْقَوْلِ عُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ
 وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۲﴾ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿۱۳﴾ أَفَعَبَّرَ

سیت مُردہ زندہ سہدت کلمہ کرن، بید ہر گاہ اس ساری پوشیدہ مخلوقات جہنم انہیں بُروٹھ کنہ جمع
 کر کلمہ۔ تا کا کوا لئو یؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجھلون توہ تم ایمان اُن نہ پڑھ کرن نہ
 مگرے کانہ ہدیہ حقہ پڑھ اللہ تعالیٰ۔ لیکن تمہو منزہ ہجھ اکثریت جاہلن نہ بے خبرن ہنز سمن نہ
 حقیقت معلوم ہجھ ایمان نہ تک ہجھو نہ تمہن قصدی نہ ارادے۔ خوا مخواہ ہجھ فرماشی مُنجزہ طلب
 کران وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ہجھ پانچہ سم لو کلمہ جہدہ دشمن ہجھ
 ہجھ پانچہ کر اسہ پر ہجھ بیغبرس دشمن انسان شیطان نہ جن شیطان نہ لہذا ہجھ نہ ہو کلمہاہ کینہہ
 يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ عُرُورًا سموا اندرہ بعضی شیطان بعضی کافرن انسان شیطان
 ہجھ نہ مزہ دار کلمہ بطور وسوسہ ڈھوکہ دہہ خیلرہ دلن منز تروان اس۔ اسہ اندرہ ہجھو مُراو کفر چہ نہ
 مخالفتہ چہ کلمہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ہر گاہ پڑھہ ہا جہدہ پروردگار تم کرہ سمن
 نہ یہ کوم یعنی دشمنی مگر تم ہجھو یو ڈھمت دو ستن سیتہ دشمن گاشس سیتہ جھ۔ پڑس سیتہ اپز اسن۔
 جہدہس پڑھنس منز ہجھ جبر جبر جھو۔ لہذا اسہ سپہن جہدہ دل نہادک آزرده ہجھوہ دشمنی سیت۔ نس
 تراو کلمہ تم لو کلمہ ہجہ یہ کینہہ ہاہ تم کران ہجھہ دینس منز انتر پردازی اندرہ تمیک غم نہ بر و جہدہ
 وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ہجھہ سم شیطان یمن کافرن ہندین دلن اندر
 سمہ مو کلمہ وسوسہ تروان ہجھہ تم لو کن ہدیہ دل تمہن سمن کن پچرن۔ مایل سپہن سمن نہ پڑھہ ہجھ
 آخرت۔ یعنی اہل کتاب سوزو نصارتی۔ بجاہہ تمہے پڑھہ اسہ ہا آخرت علیہ کرہ سمن نہ نبی آخر الزما س

اللَّهُ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا
وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۶۴﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۵﴾
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

انکار فَلْيَرْضَوْهُ وَلِئِنَّ قُلُوبَهُمْ مُّقْتَدِرُونَ ہے بختم تم بہتران کتھن پتھہ راضی گوومن۔ یہ بختم
تم ہے لکن تجے پتھہ کامہ کرہ ہم تم پانہ کران اس اَقْرَبُ اللَّهُ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا خبہ فرمادو کہہ یار رسول اللہ صبرہ ای لو کو تو بہر منزہ میہ منزہ پتھہ اختلاف میاہ
رسالتک۔ نو پتھوس حکم خدا پتھہبر آسک دعویٰ کران۔ خبہ پتھہ وہ اتھہ انکار کران مگر احکم الحاکمین پتھہ
فیصلہ میاہ خبہ دہشت۔ بیازہ میانس اتھہ دعویٰ اس پتھہ پتھہ بڈ دلیل یہ قرآن مجید کس لوڈ معجزہ پتھہ۔
ہر گاہ خبہ تو بہ ماونہ یہ بیازہ خبہ پتھہ پتھہ یوحنا یہ خدائی فیصلہ کافی نہ زاتھہ بیاہ ژحانڈن لو بیاکھ فیصلہ کرہ
وانہ۔ حالہہ تم فرمود پتھن کامل فیصلہ۔ تم کر نازل تو بہر کن یہ بڈ کتاب۔ سبک مضامین بالکل صاف
صاف بیان کرہ آست۔ پتھہ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ یہ سبک
لو کن اسہ یہ سبک یعنی تورات و انجیل عطا کر تم گے یہود و نصاریٰ تم یہ پتھہ پتھہ سان زانان کہ یہ
قرآن مجید پتھہ واقعی پتھہ س پروردگارہ سندہ طرفہ نازل آست کر نہ کیا زہ برو پتھہ سبتا بن اندر پتھہ لہج
خبر نہ آست فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ کس نہ آست خبہ شک و تردد کرہ و نیو اندرہ اتھہ اندر و تَمَّتْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا پوزہ کامل پتھہ پتھہ س پروردگارہ سندہ یہ کلام پوز آست کن۔ امیک
اعتقادات برابر یہ معتدل آست کن امیک اعمال لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ کانہ اکماہ پتھہ نہ اتھہ کلامس بدل
کرہ دن یہ تغیر و تبدل کرہ دن وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ پتھہ اللہ تعالیٰ دشمن ہنزہ سارے پتھہ پوزہ دن
ساری اعتقادات پوز زانہ دن وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ باوجود لا

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۶﴾ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۷﴾
فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

لیکن ہندو واضح ہے صاف آسمان پر چھوڑ دیا اس اندر زیادہ منکری۔ ہر گاہ جبہ یارسول اللہ بالفرض جہنم سے تھے
 ماہی علیہ ذالین تم تو بہر پروردگارہ سزہ و سزا کی بارہ تم چھو پاندہ و تیرے لہرے ڈالتے۔ **إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا**
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ تم جہنم! عقائد ان منہ بیروی کر ان مگر بے اصل خیالاتن ہنہ۔ یہ جہنم
 تم مگر اپڑ ٹھہراوان قیاسی تھے کر ان۔ **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ**
بِالْمُهْتَدِينَ تمہن مقابلہ جہنم بعضی خدایہ سند ہندہ راہ اسٹس پیٹھ پکان۔ پڑ پات ٹھہر پروردگار سؤی جھو
 یڑزانہ وان ٹس ٹس جہنمہ و تیرے لہرے جھو ڈالان۔ سؤی جھو یڑزانہ وان تمہن ہم سزہ و تیرے ٹھہ پکان جہنم۔ سؤ
 جہنم پانہ ٹمہر ہن سزاویہ تھے پانہ کرہ سزہ و تیرے ٹھہ پکے دشمن انعام و اکرام عطا۔ کافر و تروہ مسلمان اندر
 یہ شبہ ہے جھک سہ ای مسلمانو عجیب گتھاہ جہنم کہ پانہ مورمت جانور جھون کھیوان مگر خدائے ٹس مور
 مت آسہ یعنی خود مر ڈہ جانور سؤ جھون نہ کھیوان۔ مسلمان آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرے۔ یہ شبہ
 کر تھہ پیش۔ آتی سپہ نازل ہم آیات کریمہ۔ ای مسلمانو تو بہرے بلکہ ممانعت آسہ کرنے کہ جہنم آسہ کافر
 ہنہن ٹھن گن تھاوان **فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ** لہذا کھو تمہن جانورن
 ہندہ ماہ ٹھن ذبح کر جہنم وقتہ خدایہ سند نا کاسہ ہندہ شرکتہ و راہی ہینہ آمت آسہ۔ ہر گاہ جہنم یں آیاتن پڑھہ
 کرہ دن ہے احکامن پیٹھ ایمان آنہ دن جھوہ جانورہ سند حلال سپہن ہے حرام سپہن جھو موقف خدایہ سند
 ناہ بھلس پڑھہ ہے نہ بھلس پڑھہ ذھبہ وقتہ۔ یہ ٹھونہ والس جانورہ سند ٹھون جہنمہ ہندہ منہ نہیر ٹس ہے نہ
 نہیر ٹس پڑھہ۔ **وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ** توہ کیاہ و جبہ جھو کہ جہنم جھوہ نہ کھیوان ٹس
 جانورہ سند ماہ ٹس ذبح آسہ کرنے آمت خدایہ سند ناہیتہ **وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ** حالہ جہنم تم

لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
 لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۹﴾ وَذُرُّوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ
 يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿۲۰﴾ وَلَا تَأْكُلُوا
 مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ
 لَيُوحِّوْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ

فرمود توبہ بتفصیل ہمیں آید کہ جس منہ تم ساری چیزیں توبہ تھو تم **إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ**
 مگر جسے سخت مجبور نہ ہو وقت۔ تمہہ درای بنو نہ توبہ کا نہ چیز۔ طلبہ ہجرت تم حرام چیز سے بقدر
 ضرورت توبہ حلال۔ تم حرام چیزان منہ ہجرت نہ جلیہ تذکرہ جس جانورہ سند جس اسم اللہ ہر تھہ آسہ
 باقاعدہ ذبح کرنے آمت **وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ** پڑتھہ ہجرت کہ دریاہ لو کھہ
 ہجرت لو کن ڈالان سے گمراہ کران پنہ نیو غلط خیالو سیت بلا وجہ سے ہلاک لیل۔ لیکن کیتس کالس کرن تم لو کن
 گمراہ **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ** پڑپاٹ تھہ پروردگار ہجرت رسول اللہ زیادہ ذلہ وان حدہ ہجرت
 ذلہ و نمین۔ سوہہ تم پانے سخت سزا۔ **وَذُرُّوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ** ای مسلمانو تھہ تراوین عثمانہ سے
 پو شیدہ عثمانہ یعنی تھہ نہ دن اندر اعتقاد آسہ تھاوان حلال چیزیں حرام آسک۔ حرام چیز کہ حلال آسک
إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ پڑپاٹہ ہم لو کھہ عثمانہ کرن آدہ ہر قسمک
 عثمانہ آسہ سے تمہہ قسمک۔ لوٹت آسٹن یا بوڈ، پو شیدہ آسٹن یا نون ضرورتیں تمہہ سزاو نہ تمہہ سار کوی یہ
 تم کرن آس ہجرت کامیو اندرہ **وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ** بیہ منہ آسہ کیوان ای مسلمانو
 جس جانورہ سند ماز جس ہجرت نہ ذہبہ وقتہ خداہ سند ناؤ ہینہ آسہ آمت **وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ** ہر پڑپاٹہ سو کیون
 ہجرت سخت عثمانہ **وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحِّوْنَ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ** ہر پڑپاٹہ جن شیطان ہجرت پنہ نمین
 دو سٹن سے بیرون ہند سٹن دن منہ تمہہ عجیب تھہ تراوان توبہ سیت سخت کرنے خیطرہ **وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ**

لَشُرُكُونَ ﴿۳۱﴾ أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَسْكَرُوا فِيهَا وَمَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ

لَشُرُكُونَ ہر گاہ تو بہی تہیزہ تھمہ ماوہ۔ عقائد ان یا عملن متعلق تہیہ تہ گنوا تہ ضرور مشر کے آو من
كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا
آیا ایس شخصہ گوزہ اوس مردہ گمراہ تہ و تہ دولت۔ تو پتہ کور اسہ سو زندہ یعنی مسلمان بنو یہ کور اس عطا
اسہ کور اوس کور پتہ پکان ہتھ سو کو کن اندر گمراہی ہند یو ساری غاپلو تہ ہتھ سو محفوظ۔ سو چہا برابر
تس شخصہ سیت تس گمراہی ہنزہ اہ عظیمہ اندر و تہ آنت ہتھ۔ تہ ہنزہ ہتھ تہ پکان سو نیر تہ ہر گز
ہتھ تہ برابر كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہتھ پاتھہ ہا ایمان ہتھ ایمان تہ اعمال صابر تہ
معلوم سپہ ان ہتھ پاتھہ آوز ہتہ ہنہ کافران ہنزہ تہن کائن سمہ تم کر ان ہتھ تہ نو تہا ہتھہ و كَذَلِكَ
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيَسْكَرُوا فِيهَا ہتھ ہتھہ پاتھہ از مہ شریک ز تھہ ز تھہ لو کہہ ہتھہ
ہز س دعوتس مخالفت کر ان لو گن سیزہ و تہ تہہ ڈالان ہتھہ پاتھہ کمر اسہ برو تھمین اوسن ہند پر تھہ شرس
اندر ز تھہ ز تھہ لو کہی سم گوزہ ارتکاب جرم کر ان آس۔ تہ تہہ آثرہ سیت آس عام لو کہہ تہ سو جرم کر ان
ہوان تا ایکہ تم لو کہہ آس حضرات انبیاء ضرور اتاوندہ خیطرہ تہ تہ س تہلیغس ناکام ہنوندہ خیطرہ
شورش پھیلاوان سمہ مو کہہ سم ساری غذا تس گرفتار آس ہوان کر نہ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ
وَمَا يَشْعُرُونَ تم لو کہہ آس پتہ خیال تہ تہن تکلیف و اتاوندہ خیطرہ شرازت کر ان مگر تمیک ضرور اوس
تہن پتہ نیچے پان دان مگر تہل و بے علمی سبہ اوس تھہ نہ تہری تران۔ تہن مکہ کین کافران ہند جرم ہتھہ
نوت زیادہ تہہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ أَقْبَلُونَ حَتَّىٰ نُؤْتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ يَلِيهِ خَمَلٌ مِّنْ

آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا
 صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۳۳﴾
 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
 وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا
 يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

وامان چھو پڑیک کا نہ نشانہ ، بوڑھو مجزہ ، نس پیغمبر برحقہ سندس نبوتس چھو بڈ دلیل چھو آسان تمہ
 سادہ چھو تم وہاں تمہ اس گروہ نو تان پڑھو نو تان نہ آسہ پانس تہ من عطا کرنہ تم چیز سم پیغمبرن عطا
 کرنہ آئے یعنی وحی بہ کتاب وغیرہ۔ اچھہ چھو کران اللہ تعالیٰ رتہ۔ فرماوان چھو **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ**
رِسَالَتَهُ اللہ تعالیٰ چھو بہتر تہ رت زمانان زہ کو نہ جای چھو مناسب تہ لایق پیغمبری خیرہ۔ سمہ شخص
 چھو قابل تہ سزاوار سمہ عمدہ جلیلہ خیرہ **سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ** عنقریب ولہ
 تمن لو کن سمو پڑھ سمہ دن تہ چھہ جزم عظیم کو زخدا نئس نش و اچھہ بڈ ذلت تہ خواری آخرئس اندر
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ بیہ و اچھہ کڈر عذاب مکر تہ فریب تہ شور و شر پھیلاونہ خیرہ
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ سمہ بُرو چھہ آوہ بیان کرنہ حال با ایمان تہ کافرن ہند تمہ اندرہ سپہ معلوم
 کہہ سمہ ہ حقہ اللہ تعالیٰ پڑھہ ہدایہ چہ و تہ چھہ انون تہ نجاتچہ و تہ چھہ پکناون **يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ**
 سمہ سینہ یعنی دل چھو نمودر اووان تہ کشادہ کران اسلام قبول کرنہ خیرہ **وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ**
صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا بیہ سمہ ہ حقہ اللہ تعالیٰ پڑھان چھو مگر ای سمہ سینہ یعنی دل چھو کران تنگ
 سوئی سمہ تنگ اسلام قبول کرنہ خیرہ **كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ** زن سو شخص زورہ آسان چھو
 کھسن ہیوان۔ مگر چھو نہ کھسیت ہیکان دل چھو تنگ سپہ ان **كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ**
لَا يُؤْمِنُونَ چھہ پانچہ چھو اللہ تعالیٰ شیطانہ سند و سوسہ تراوان تمن لو کن چھہ ایم نہ ایمان آنان تہ پڑھہ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۵﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَضَّلْنَا
 الْآيَةَ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ ﴿۲۶﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
 جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ
 أَوْلِيَاهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضَنَا بَعْضٌ وَبَلَّغْنَا
 آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ

کران جہت ہی دسویں نپاکی چھ روز بروز زیادہ سپدان و ہذا صراط ربک مستقیماً یہ دین اسلام صحیح
 ذکر برداشتہ ہے جسے جہدس پروردگارہ سز سیز و تھہ۔ اسیہ درای مچھنہ ہیہ کانسہ و تھاہ سز سیمہ و تہ و تھہ
 پختہ سیت شخص نجات ہیہ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ بیشک ای صراط مستقیمہ ہیہ
 وضاحتہ خطیرہ کہ اسیہ پن آیت بتفصیل بیان نصیحت رہہ و نمین لوکن ہمدہ خطیرہ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ
 رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تمن نصیحت رہہ و نمین دین اسلام قبول کردہ و نمین ہمدہ خطیرہ
 ہتھو سلامتی تہ امن و مالک ہو شون گرہ یعنی جنت جہدس پروردگارس زہرہ۔ سوی ہتھو ہیہند دوست تہ
 مددگار تھہ بدل ہیہ ہم کران آس رتہ عملہ و یومر یحشرہم جمیعاً ہیہ ہتھو سودوہ قابل ذکر ہیہ
 ذوبہ آس ساری مخلوقات جمع کرو کہ تھہ منز جن تہ انسان ساری جمع آسن۔ تھو منز ہیہ جن شیطان
 تھہ ہوت و تہ یَمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ای جن شیطانو واریاہ لو کہ بناو و و کہ تھو ہیہ
 پن تابع انسانو آندرہ ہم گراہ کرو کہ پاس سیت وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِّنَ الْإِنْسِ تو پتہ و تہ تمن شیطان
 ہند دوست انسانو آندرہ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضَنَا بَعْضٌ ای سایہ پروردگارہ بیشک ہتھو چون فرملان ہو زہ۔
 واقعی کل نفسانی فائیدہ اسیہ آندرہ ہلہیہ بعضین ہمدہ سیت۔ واقعی ہتھو س اندر آس شیطان ہمدہ ڈالند
 سیت قیاس انکار کران وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا و تہ دست اس تھہ مضمین و قیاس ہیہ سایہ
 خطیرہ مقرر ہو تھہ کورمت یعنی دون ہتھو از فیصلہ ہیہ تھہ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ فِيمَا لَا

فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾ وَكَذَلِكَ
 نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۵﴾
 يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
 يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
 هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۶﴾

مَا شَاءَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ فرمادیتھے ای جن نے انسان کافر و گنہگار بننے کا فیصلہ کیا وہ جو مومن فیصلہ بنا کر چھتیس منزہ ہنر
 جای۔ ہمیشہ بخیر توہمہ روزانہ تھے منکرے اللہ تعالیٰ ای بڑھے توہمہ تمہے منزہ کڈن مگر سُو بڑھے نہ
 زانہ۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ہذا پات تہمہ رب بخیر سخاہ حکمتہ اول سے سخاہ علمہ اول۔ علمہ سیت
 ہجہ تیس ساری ہنر جزم معلوم حکمتہ سیت بخیر پر بخیر تجر تیس مناسب سزا دوان وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ
 الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہتھے پاتھ تھو کہہ اس آؤ گنہگار تین گنہگارن نزدیک ہتھے پاتھ
 تم دنیا سے اندر اکہ و نہ روز تھہ ہجہ کامہ کران اس يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
 مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ای جن نے انسان ہنر و
 جھاڑو توہے ہجہ پندہ نین گرا تین سے ہجہ عملن ہنر اقرار کران۔ بیاہ توہمہ ہنر و اثرای ناسان بے غیر ہم
 توہی منزہ اس ہم توہمہ پران آسہن ہنر زوان آسہن اعتقادن سے اعمالن متعلق سان آیات ہنر آسہن
 توہمہ ہم کران از کہ دُہجہ پیش انک۔ آدہ بیاہ وجہ اوس تہہ آسہ نہ مکر و نافرمانی ہنر بازوان۔ قَالُوا
 شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ہم ساری دین اس ہجہ پندہ نین پان و تھہ پائے جزیج گواہی دوان کہ واقعی
 حضرات انبیاء و اثرای آسہ ہنر ہم اس چان آیات آسہ بوزہ نوان۔ ہنر اس از کہ دُہجہ ہم سے کران۔
 مگر اس آس نہ تہمہ مانان۔ اللہ تعالیٰ بخیر فرمادان۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تین اوس دہتت
 دنیاچہ زندگانی دُہجو کہ۔ تھو اوس دنیوی عیش رُومت مقصد اعظم آخریج آسکھ نہ فخری تمیک نتیجہ

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقَرٰى بِظُلْمٍ وَّاهْلٰهَا
 غٰفِلُوْنَ ﴿۱۶﴾ وَّلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَّمَا رَبُّكَ
 بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمٰةِ
 اِنْ يَّشَآءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا
 اَنْشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخِرِيْنَ ﴿۱۸﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ

در اذکے و شہدوا علی انفسہم انہم كانوا کفیرین تمہارا ڈرانے پہے بس کافر آئیں تو تمہ کو ابی
 مگر نتیجہ اقرار کر لیں کیا وہ فائدہ نیرہ ذلک ان لہم یکن ربک مہلک القرای بظلم و اہلہا غفلون یہ
 پیغمبران ہمدہ دعوت حق پہتہ سوز تک سلسلہ آد جاری کرنے۔ کیا زہ تہند پروردگار (یار رسول اللہ) ہتھونہ
 علم شہرہ کین لوگن ظلم کر تہ تہزہ بے خبری اندر گالان۔ بلکہ ہتھو کہہ گوڈہ پیغام و اتنا وان حضرات انبیاء
 ان ہمدہ ذریعہ و لیکل درجت مہا عملوا و ما ربک بغافل عما یعملون بلکہ پیغمبر آئے
 سوزتہ تمہا ذیت لوکن ناد سارنی لوگن سپہ اطلاع۔ تمہہ پتہ چھہ ظن تہ انسان نیکو کارن تہ بدکارن سارنی
 عملہ کرہ و تہن ہمدہ غیظہ درجات مقرر کرنے آتہ۔ تہزہ عملہ مطابق تہن درجاتن مطابق و تہ تمہن پتہ
 نین عملن ہمدہ نتیجہ تہ یہ ہتھونہ تہند پروردگار لوکن ہنزہ و عملونہ بے خبر و ربک الغنی ذو الرحمة یہ
 ہتھو تہند پروردگار بے نیاز تہ تہند لوگن ہنزہ عبادت ضرور تہ۔ سو ہتھو رحمت و اول۔ محض پتہ رحمت
 سیت سوز تم حضرات انبیاء ہتھہ تہندہ ذریعہ معلوم سپہن نفع و ضرر کہ چیز۔ آتہ اندر ہتھو ہمدان ہمدہ
 وی فائدہ۔ اِن یَشَآءْ یُدْهِبْکُمْ وَ یَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِکُمْ مَا یَشَآءُ ہر گاہ سو ہتھہ توہہ سارنی یہ یکدم
 ہمہ حالہ منزہ ہلاک کر تہ۔ توہہ ہڈل نہ توہہ پتہ تمہن۔ ہتھہ تہ تمہن کما انشاکم من ذریئۃ قوم
 اٰخِرین ہتھہ پانچہ تہہہ کر تہہہ پیدہ یہہہ اکہ قومہ سلسلہ اندرہ تہند ہتھونہ و موجود تہہہ تہہہ ہتھہہ تہزہہ جاہہ
 موجود تہہہ پانچہ ہتھو یہ سلسلہ جاری مگر وارہ وارہ۔ ہر گاہ اُس ہتھو تہہہ کرودہ ختم یہ یکدم کیا زہ سارہ کامہہ
 ہتھہہ کانسہ ہمدہ آہند سیت یا نہ آہند سیت کانسہ زکاوت۔ حضرات انبیاء سوزے یہ آہہ تہندہ مفادہ

لَا تِلْكَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۹﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۰﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْبِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ

خیطر۔۔ آسہ اوس نہ سمجھ اندر ہیں کانسہ غرض۔ لہذا پرہہ ہا توہمہ تمین پیغمبرن تصدیق کران۔ تہز پیروی کرن۔ تمہ سیت سپد ہا توہمہ سعادت حاصل۔ اِنِّ مَا تُوْعَدُونَ لَا تِلْكَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ یمن چیزن ہند توہمہ پیغمبرن ہمد واسطہ وعدہ یوان ہتھو کرن قیامت یا عذاب تمہ تمہ ہتھہ یقیناً ضرور اودہ ہند۔ تہہ ہتھو نہ خدا عاجز کرت۔ عذابہ تہہ یمن پان ہجاوت ڈ تھتھہ دنہ سیت۔ روپوش روزنہ سیت یا تہیس شہرس ہ۔ ملکس ژانہ سیت قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ بالآخر فرماؤ کہ تہہ یا رسول اللہ ای لو کو تہہ گوجو یمن کام کران چندہ جایہ توتہ ہتھوس یمن کام کران چندہ جایہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عنقریب سپدہ توہمہ معلوم مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہ کسدہ کتھ آسہ زت انجام آخرتس لہزر۔ بیشک ہمہ چھہ یقینی تمہ کہ ظالم گوجھن نہ زانہہ کامیاب وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا یہ لگ ہم کافر خدا یہ سپدہ خیطرہ (تمی منزہ یہ تمی پیدہ کورمت ہتھو زراعت ہ چاروا یو منزہ) کتھ حصہ مقرر کرنہ۔ یکتھ حصہ ہا تلین ہمدہ خیطرہ حالانکہ پیدہ کرنس منز ہتھونہ تہس کانسہ یہ شریک فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْبِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا تہس تہہ لگ ہم چندہ خیالہ یہ حصہ گو خدا تہس یہ حصہ گو سائین تھمہ او تہین شریکین فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ تہس تہس حصہ آسہ تہہ دین شریکین ہمدہ خیطرہ تھاونہ آمت سوی آسہ جان ہ زت۔ تہمہ منزہ ولتہ نہ کہہنی خدا تہس وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ یہ تہس تہس حصہ آسہ

يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۴﴾ وَكَذَلِكَ
 زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ
 شُرَكَاءُهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۵﴾
 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ
 نَّشَاءُ بِزُعْبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ

خدا یہ سیدہ خیطرہ تھاوانہ آنت سوی جان پسن اوس سو بیحدہ واجتھ جہدین شریکن کن۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کو تاہ بچھ وچھو بند یہ فیصلہ تہ تجویز۔ کیا زہ نس چیز خدا این پیدہ کور۔ سو کیا زہ بیج تھاوانہ نس ورا ی یہ کانسہ بندہ خیطرہ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ جتنے پانچہ ایت زینت وارن سکن مشرک جن اولاد مارنس جہد یو شیطانو۔ چنانچہ تمن آس یہ وحشیانہ کوم رثتہ جان یوان یوزن۔ بچھ تم مشرک تہاوہ بر باد سپدن آخر نس منز۔ یہ بچھ تمن مشرک پوتھہ دین جہد خلط ملط سپدہ۔ تم روزن ہمیشہ غلطی منزی وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ جتہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یوحہ ہاتھدہ حقہ جانیر طہ آسن نہ تم یہ بچھ کوم کران فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ نس تراو یو کہہ تم جہد لہذ نور اوان تہ غلط بچھ ٹھہرونہ سم ٹکن پانے تمیک خراب نتیجہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِزُعْبِهِمْ اس پنہ خیالہ موجب کیوان یزھون (یعنی سم بچھ معبودان باطلن بندہ خیطرہ بندر تھاوان۔ تو پتہ بچھ کیوان جہدین مجاورنی ثوت تمن ورا ی بین بندہ خیطرہ بچھ زانان حرام وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا یہ آس ومان سم جانور (بندہ جانور مخصوص کرت) تمن پوتھہ بچھ سوار سپدن یا نور کھازن حرام کیا زہ

لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۹﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ
خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ
مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ ﴿۴۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ

ہم چھہ منسوب معبودان باطلن کن کرنہ آمت و آنعام لکاید کورون اسم الله علیہا افتراء علیہ
بہ کینہہ چارواہی تمن وٹھہ آسنہ ذھبہ وقتہ خدایہ سند تاو ہوان خدائس وٹھہ اپز نور اوٹھہ۔ بیازہ بہ آس
زانان کہہ امہ سیت گویہہ اللہ تعالیٰ ٹوش سبجزیہم بہما کائوا یفترون عنقریب دہ اللہ تعالیٰ تمن
امہ اپز نور لونہ موکھہ سزا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا
بہ آس ومان ہم مشرک، ہم چہہ تمن چارواہن ہندسٹن شکمن منزہہ ہم چہہ ہم چہہ فقط امہ اندرہ مردن ہندہ
ٹھپڑہ حلال، زمان وٹھہ چہہ ہم حرام ولن یکن مینتہ فہم فیہ شُرکاء ہر گاہ سوچہ مردہ زیوہ
تلیہ چہہ ساری مردہ زمانہ تمہہ کس کھیس منز برابر شریک سبجزیہم وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
عنقریب دہ اللہ تعالیٰ تمن پائے حرامہ ہ حلالہ سیت جانورن صفت کرئس وٹھہ ضرور سزا۔ بیشک سو
چہہ سخاہ حکمتہ دول ہ سخاہ زانن دول۔ تمسندہ گرفتاری اندر تاخیر کرن ہتھونہ بے خبری موکھہ بلکہ ئس
چہہ ہر خبر مگر تاخیر عذائس منز چہہ حکمت آسان قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ تھنن تاوانس منز پے ہم لوکھہ سمولواد ہنن بے وقوفی ہ جمانتہ سبہ بلا دلیل مار وَحَرَّمُوا
مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ بہہ کرکھہ حرام پائس وٹھہ سوزق ئس اللہ تعالیٰ ان عطا کر یوکھہ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ ہم
ساری چیز چہہ کران ہم اپز نور اوٹھہ خدائس وٹھہ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ بیشک سبہ ہم لوکھہ
گمراہ بہہ آس نہ ہم زاننہ ہ سیزہ دہہ وٹھہ کچہ ون وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ

قَدْ صَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ
 جَدَّتِ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
 مُتَشَابِهٍ طَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَ
 مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ لَكُمْ تَسَارِقُ كَمَا أَنْشَأَ اللَّهُ
 وَلَا تَتَّبِعُوا أَخْطَاةَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

مَعْرُوشَتِ سُو پروردگار کو سُوئی سم پیدہ کر تم باغ سمن اندر تم کل جھہ ایم ڈھکن تو تھہ کھسان جھہ
 (ڈھہ کل ہی) بیہ تم کل سم ڈکھوورائے کھسان جھہ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ بیہ سم خضر
 کل بیہ زراعت پیدہ کور سمہ کین مین بہ دان مختلف صورت بہ مختلف مزہ آسان جھہ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بیہ کورن پیدہ زیتون بیہ دان سم کھہ آکس ہی بہ جھہ آسان۔ کھہ
 آکس بدل بہ جھہ آسان کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ تمی فرمودای لو کو کھیو سمن سارنی گلین ہند میدہ
 یلم سونیران آسہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ بیہ آسو سمن فصلن ہند حق ادا کران یعنی زکوٰۃ دووان
 سمہ دوہہ بہ فصل ژمان آسو وَلَا تُسْرِفُوا جھہ دس منز بہ مہ آسو اسراف کران إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ جھونہ اسراف کردن پسند کران وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ
 بیہ سحر پیدہ اللہ تعالیٰ ان چار پاؤ اندرہ بعضی چار پا سم جھہ جھہ نور تکہ ون جھہ بیہ سم ژ حوث بہ ہست جھہ
 نور گلنس قابل جھہ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَخْطَاةَ الشَّيْطَانِ ای لو کو کھیو بے فکر سمن
 جانورن ہند ما ز سم اللہ تعالیٰ ان تھہہ خیطرہ حلال سحر پالے نہنہ خیالہ کانسہ چیز حرام کر تھہ مہ بکو شیطانس
 ہتہ ہتہ۔ سوزانیون ہسوکبہ جھہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ پزپاٹ سُو جھہ جھہ نون ڈ سمن باوجود آینکہ

ثَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرَاثَيْنِ ۗ
 قُلْ ءَالِدَاكَرَبِيبٌ حَرَّمَ أُمَّ الْأُنثِيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
 أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَالِدَاكَرَبِيبٌ
 حَرَّمَ أُمَّ الْأُنثِيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ ۗ
 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَا اللَّهُ بِهَذَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن

پڑھو دلیلہ سبزہ توبہ یعنی دلخیز روشن مگر سوچو توبہ توبہ راہ راستہ توبہ ڈالنے میں حرام ثنئیۃ ازواج
 مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرَاثَيْنِ ہم چاروی سمین منزجہ پانے اذ حلال ہے اذ حرام کران و نحو
 کہ ہم ساری کر خدائی پیدہ یعنی جھبہ آٹھ قسم۔ کچھ آندہ زہ نہ مادہ یہ ڈھالیو آندہ زہ نہ مادہ
 قُلْ ءَالِدَاكَرَبِيبٌ حَرَّمَ أُمَّ الْأُنثِيَيْنِ توبہ پر توبہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای منکر کو زہ
 چھا خد لکن حرام کر مت کہ مادہ زہ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ کہ تم کہ چہ یا زہ حلال و نحو
 میں دو شون نسمن ہنزہ مادہ پنہ میں رحمن منزجہ توبہ یُبَيِّنُ بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ و نحو
 ایک جواب توبہ دلیلہ سیت ہر گے توبہ باز و نہ دن و نحو وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ یہ
 ہتھو اللہ تعالیٰ ان پیدہ کر مت دو توبہ نہ زہ نہ مادہ یہ گاؤ نہ زہ نہ مادہ قُلْ ءَالِدَاكَرَبِيبٌ حَرَّمَ
 أُمَّ الْأُنثِيَيْنِ پر توبہ کہ توبہ ای منکر کو زہ نہ چھا حرام کر مت خد لکن کہ زہ مادہ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ
 أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ کہ زہ چہ ہم بہدین مادن ہندین رحمن آندہ چہ۔ توبہ دعویٰ و نحو کہ ان کہ اللہ
 تعالیٰ ان جھبہ ہم حرام کر مت توبہ توبہ کمر و کاندہ دلیلہ پیش۔ اذ حلال و لیل یکن زہ چیز آتھ۔ یا آسہ اللہ
 تعالیٰ ان کاندہ توبہ یا ملکہ سبزہ ذریعہ توبہ فرمودت یا آسہ ہم توبہ بلا واسطہ پانے فرمودت۔ گوڈ و نحو
 صورتیں یعنی نبوتیں جھبہ انکار کران دو صورتیں متعلق پر توبہ کہ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ إِذْ
 وَصَّيْنَا اللَّهُ بِهَذَا کیا توبہ آسہ ہمہ ساتھ حاضر ہمہ ساتھ اللہ تعالیٰ ان توبہ ہمہ حلال کر تک نہ

اَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۹۸﴾ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيّْ
مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ
دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خَنزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا
اِهْلًا لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمِنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ
رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۹۹﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَمْنَا كُلَّ

حرام کر تک حکم فرمود۔ یہ ہے جو نہ جہہ ثابے کمر تھ۔ معلوم سپہ توبہ لہو جھنہ اٹھہ ٹوٹھ کئی دلیل ہم
جہہ محض اللہ تعالیٰ اس پیشہ بلا دلیل ایزت بہتان نور وادان **فَمِنْ اَظْلَمُ وَّمِنْ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا**
لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ جس کبہ اکھاہ جھوٹہ ظالم جس شخصہ سبہ خونہ ہم ایز نور و معبود بر نفس ٹوٹھ کو
کن گمراہ کرنے خیطرہ بلا دلیل **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ** پڑ پانٹھ اللہ تعالیٰ جھوٹہ نہجانے نہ سچ
دھہ ہوان ظالم کو کن بکھہ تہز جای جھہ ہار جھنم **قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيّْ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ**
يَّطْعَمُهٗ جھہ فرماؤ کھہ یارسول اللہ ای لو کو تو جھوٹہ نہ لہان تم ان حکامن منز ہم سہ کن سوزنہ آی خد لہ
سبہ طرفہ کانہ چیزہ حرام جس کانہہ کبہوہ جس ٹوٹھ حرام آسا **اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا**
مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خَنزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ مگرے آسہ خود مرده یا آسہ خون جس بدنہ منزہ نیران جھوٹہ یا
آسہ سورہ ماز جس بے شک جھوٹہ باکل ناپاک۔ تمسہ ساری اجزای بدن جھہ ناپاک نہ حرام۔
سو جھوٹہ جس العین جس نہ علمہ طریقہ پاک سبہ **اَوْ فِسْقًا اِهْلًا لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ** کانس جانور وغیرہ
شرنگ ذریعہ نہ یعنی جس جانور وغیرہ بقصد تقرب الی غیر اللہ خدانس ورا ی بہ کانہہ ہند قرب نہ رضا
حاصل کرنے خیطرہ ذبح کرنے آنت آسہ آسہ آسہ سوز خد لہ سبہ ناؤ جھنہ ذبح کرنے آنت **فَمِنْ اضْطَرَّ**
غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ جس جس شخصہ سخت مجبور سبہ کانہہ چیز ہمیں نہ کہینہ
خیطرہ ہمہ حرام چیز وورائے سو شخصہ کہہ ہمہ حرام چیز واندہ کہینہ نہ جھوٹہ جس جائیز۔ بشر طیکہ جوی

ذِي طَيْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شُحُومَهَا
 إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
 بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۶﴾
 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ
 بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۷﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

مَنْ كَفَرَ سَمِعَ سِيتَ زَمَدَه بِحَبْرٍ رُوِيَتْ سُوْذَلَهْ نَهْ كَهَيْسَ أَنْدَرِ حَدَهْ نَهْ بِهْ سَمِعَ نَهْ خَدَلِيَهْ سَبِيَسَ كَهَيْسَ نَا فَرْمَانِي
 كَرَهْ وَا نَهْ طَالِبِ لَذَاتِ نَهْ مَزَهْ رُحَامَتَهْ وَا نَهْ نَسْ بِهْ أَمِيْدَ بَخْشَالِيَهْ هَنْزَهْ كِيَا زَهْ اَللّٰهُ تَعَالٰى بِمَحْنُو سَخَاهِ
 مَغْفِرَتِ كَرَهْ وَا نَهْ سَخَاهِ رَحْمِ كَرَهْ وَا نَهْ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلْفِيرٍ بِهْ كَرَسَمِ
 يُهْبُوْدُنَ وَنَهْ حَرَامِ پَرِ هَنْدَهْ نَهْ وَا نَهْ جَانُوْرَ نَسْ نَهْ اَللّٰهُ اَللّٰهُ آسَمِ بِهْ آسَمِ سَمَلَهْ وَنَهْ سُوْ كُوُوْ نَهْ، مَحْرَ،
 شَرِّ مَرِغَ، اَنْزَ، بَطِيْخَ وَغِيْرَهْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شُحُومَهَا كَاوُوْ نَهْ كُوْ اَنْدَرَهْ كَرَسَمِ حَرَامِ
 تَمِيْنِ وَنَهْ هَنْزِ چَرَبِيْ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ مَّگَرِ نَهْ سُوْ
 چَرَبِ نَسْ جَمِيْدِيْنِ نَهْ تَمِيْنِ وَنَهْ آسَمِ يَا اَنْدَرِ مَن سِيتِ آسَمِ يَالْتَمِ اَلَّذِي سِيتِ مَلِيْتَهْ آسَمِ - اَمَدِ وِرَايِ آسَمِ
 سَا بِيْ چَرَبِيْ حَرَامِ سَمِ چِيْزِ آسِ نَهْ فِى نَفْسِهْ حَرَامِ كِيْنِهْ نَهْ - مَّگَرِ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَانَّا
 لَصَادِقُونَ بِهْ سَزَاوِيْتِ آسَمِ تَمِيْنِ هَنْزَهْ سَرَكَشِيْ مَوَاكُهْ - اَسْ بِهْ بَقِيَا يَا زُوْمَانِ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ
 رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ نَسْ هَرْ گَاهِ تُوْتِهْ تَمِ ذُشْمَنِ تُوْتِهْ اِنْكَارِيْ كَرِنِ، نَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ يَّهْرَسَ كُنْ نَسِبَتِ
 كَرِنِ سَمِيَهْ تَمِيْنِ مَوَاكُهْ كَبَرِ تَمِيْنِ كُوْنَهْ مَحْنُوْ اُوْهْ عَذَابِ نَا زِلِ سَهْدَانِ، تُوُوْ فَرْمَاوُوْ كَهْ هَنْزَهْ پَرُوْرُ دُگَارِ مَحْنُوْ وَسِيْعِ
 رَحْمَتِهْ وَا نَهْ - بَعْضِيْ حَمْنُوْ مَوَاكُهْ مَحْنُوْنَهْ سُوْ نَا فَرْمَانِ جَلْدِ مَّگَرِ قَاْرَ عَذَابِ كَرَانِ - مَّگَرِ چَهْ مَهْ ذَلُوْ هَيْشَهْ رُوْزَهْ
 نُوْ بَهْ حَالِ - نَهْ بَلَكِهْ سَمِيَهْ وَنَهْ عَذَابِكِ وَنَهْ (نَسْ مَقْرُرِ كَرِنَهْ اَنْتِ مَحْنُوْ) وَا نَهْ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ
 الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ تَمِيْنِ سَا نَهْ بِهْ نَهْ جَمِيْدِ سُوْ عَذَابِ كَانَهْ اَكَهْ دُوْرِ كَرِ هَنْزَهْ - بِهْ رَحْمَتِهْ نَا فَرْمَانِ نَهْ مَحْنُوْ
 لَوْ كُنْ نَهْ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ مَّشْرُكٍ

الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا
فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ عَن نَّرْزُقِكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

پڑھان پھوٹس پھوٹہ کینہہ = بنان قُلْ هَلْ شَهِدَ آءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ
هَذَا فرماؤ گھہ خبہ کہ نہ دیکھ کن اینو کہہ خبہ تم گواہ ایم یہ گواہی دن کہہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کیاہ کریم چیز
حرام تمن ہنز ذکر کر نہ آہے فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ تمس ہر گاہ تم بالفرض گواہی دن
کہ توبہ گھہ نہ خبہ یار رسول اللہ خبہ س وہ نس اعتبار کرن = تہز گواہی قبول کرن۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا یہ منہ سمر و بیروی تمن لو کن ہنز ان خواہن سموا ہوز ان سان آیات۔
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ یہ تمن نہ پڑھہ جھہ آخر حج یہ جھہ تم پنہ
نس پروردگار سیت معبود آس نس اندر تلو تو اندرہ بین برابر تھوان، شریک زانان قُلْ تَعَالَوْا
أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فرماؤ گھہ خبہ یار رسول اللہ تلو تلو تلو پرودہ کیاہ کیاہ پھو
حرام کورمت خبہ پروردگارن توبہ و تھہ۔ تم چیز جھہ سم۔ آگہ چیز گواہی زہ شریک منہ سمر اوٹس
تلو تو اندرہ کا نہ چیز او۔ خدا نس تہہ قسمہ شریک سمر ان پھو حرام وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ منہ
سمر و اس ماجہ نسبت نافرمانی۔ بہہ سمر و تمن سیت احسان۔ تہز نافرمانی کرن، تمن سیت بد سلو کی کرن
چہ حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ عَن نَّرْزُقِكُمْ وَإِيَاهُمْ یہ منہ مارو گھہ اولاد بین فقرہ،
سکھہ ستی = افلاسجہ سبہ۔ جھہ پانہ زمانہ جا پیتس منز لو کہہ سمر ان آس۔ اس و مووہ توبہ = رزق یہ تمن
= اولاد مارن = قتل کرن پھو حرام وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ یہ منہ آسوز نزدیک

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۵﴾
 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
 يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا يُكَلِّفُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿۶﴾

یوان بے حیائی سے نافرمانی ہنزن کامین نہ عنن پانہر نہ نہ پاشیدہ پانہر۔ پریتھ طریقہ بدکاری سے زنا چھو
 حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ یہ نہ ماروون کا نہ شخصہ سمند مازن اللہ تعالیٰ
 ان حرام کور مگرے کا نہ پز پانہر قلس سزوار آسہ سپد مت ہیا کہ شخص ناق مار نہ سیت ذلکم ووصکم یہ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ایک چھوہ اللہ تعالیٰ تاکیدہ سان حکم فرماوان چھہ تہہ وارہ زانوہ فخرہ تار و تو پتہ
 سمر و تہی موجب عمل وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ یہ نہ
 آسہ قیمہ سبب ماس لکھ یوان مگر تہی و تہ یوسہ رڑ تہ مفید آسہ۔ سمہ سیت تھہ ماس حفاظت وادہ،
 نقصانہ لہر روزہ محفوظ یوتان سو یتیم پانہ بالغ تہ کائل سپدہ۔ مال یتیم کیون چھو حرام وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ یہ چھو اللہ تعالیٰ حکم کران زہ مینان تہ تولان آسہ پور پور، انصافہ تہ عدلہ
 سان۔ اٹھہ منز وغانہ وحوکہ وئون چھو حرام۔ سمہ احکام مشکل تہ دشوار چھہ نہ کیا زہ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
 وُسْعَهَا اس چھہ کانسہ اہس تکلیف روان مگر سٹوی یوت سو پیکہ چھہ کیا زہ چھہ یمن احکامن ہندس
 قییل کرنس منز سستی کرنہ یوان وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ معاملہ آستن تو بہر
 کانسہ آشناسند یا کانسہ دوستہ سند بہر سمہ ساتہ تہہ غیر فیصلس یا شاد افس منز کانسہ کتھہ آسہ کران سبو
 آسہ پز وغان سمہ ساتہ عدل و انصافس خلاف تھہ کرن چھہ حرام۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا یہ آسہ خدایہ
 سبب سمہ س وفا کران۔ بد عہدی تہ وفانہ کرن چھو حرام ذلکم ووصکم یہ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ یہ سار

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
 فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۳﴾
 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا
 لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۴﴾
 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ﴿۱۵﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ

کوی کردہ اللہ تعالیٰ ان تاکید کی حکم بختم نبیہ یاد تھا اور یہ عمل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ میں حکمن ہنر چھند زیادہ خصوصیت۔ یہ کردہ اللہ تعالیٰ ان حکم کہ یہ دین اسلام یہ تمکب ساری احکام میں چھوڑے میان سب سے ذمہ آئی ذمہ ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ یہ و تومہ ہو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تمہارے کر تومہ جدا سے دور خدا یہ سزہ سزہ ہے ذمہ لعلہم تَتَّقُونَ میں کوی کورہ توہم اللہ تعالیٰ ان تاکید کی حکم بختم نبیہ باقی و تومہ ہتھ روزہ۔ راہ راستہ لعلہم تَتَّقُونَ میں کانہ و تھ اختیار کرن چھو حرام ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ شریک رسد کرن پتہ چھ اس مسئلہ نبوتس متعلق مضمون بیان کران کہ امہ حض سوزدہ نہ نمی یات پیغمبر بناو تھ ہتھ تو تھ لو کن تر دہ تھ سپہ ان چھو بلکہ سوز اسہ توہم برو تھ حضرت موسیٰ پیغمبر بناو تھ۔ تو پتہ کمر امہ عطا حضرت موسیٰ اس کتاب یعنی تورات۔ ہن نعمت پوزہ کرن خیطرہ تین لو کن تو تھ سمو تھ موجب رتہ عملہ کرہ یہ ضروری احکام ہند بیان تفصیل کرن خیطرہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ میں ہتھ تمہرہ واسطہ ساری لو کن رہنمائی سپہ یہ ہر سمت تعمیل احکام کردہ دین ہندہ خیطرہ۔ یہ امہ کج کتاب سوز اسہ ہتھ تم لو کہ یعنی بنی اسرائیل پتہ بس خدا بس بیت ملاقات کرہ بس پڑھ کرن۔ تھ اعتقادس ماتحت کرن ساری حکمن پیچہ عمل بلکہ تمہ کتاب ہند تہ انجیلک دور ختم سپہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سمودوہ کتابو پتہ چھو یہ قرآن مجید

مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿۱۹۱﴾ أَوْ تَقُولُوا
 لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ
 جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجِرَى الَّذِينَ
 يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿۱۹۲﴾
 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ

یہ کتابا ہوسے اسی نازل کر۔ بابرکت کتاباہ۔ جس کمر و دان اچھی بیروی۔ کھوڑو خدا جس۔ ہتھ روز و تسز
 نافرمانی کمر نہ ہتھ تو بہ ہتھ رحمیہ کرنہ۔ اَنْ تَقُولُوا لَآئِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلٰی طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا
 وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ یہ کور اسیہ قرآن مجید نازل ہتھ نہ تہہ و ہتھ یہجو قیامتک دودہ کہ
 آسانی کتاب آس نازل کرنہ آس اسیہ برو ہتھ دون فرق ہتھ یہودن تہ نصاریٰ اَنْ تَقُولُوا اَسْ اَسْ تھم
 پر نہ ہتھ بے خبر اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدٰی مِنْهُمْ یہ ہتھ نہ ہتھ یہجو برو ہتھ
 باایمان ثواب حاصل سپد نہ کہ وقتہ کہ ہر گاہ اسیہ ہتھ تہ کتاباہ نازل یہ ہارنہ۔ اَس تہ آسہو تہہہ خو تہ
 زیادہ ہدایت بہ ون۔ لہذا روزنہ کانہ گنجائش تو بہ عنہ کچھ کرنہ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ جس تھم و اثر تو بہ ہتھ یہ کتاب اسیہ ہتھ دلیل ہتھ تہہس ہتھ دود گارہ سہہ
 طرفہ یہ بو ہدایت تہ ہتھ۔ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا وَنْ تہہ
 اکھاہ ہتھو یژ ظالم تہ شخصہ سہہ خو تہ سم ایزان خدا یہ ہتھ سم آیات۔ یہ ہتھ تہہ تہہو آیا تو ہتھ
 سَجِرَى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ عنقریب و منو اَس سزاتھن
 لو کن سم ہتھ ہتھ سانہو آیا تو ہتھ۔ ہتھ عذابو سیت تہہہ اعراض کرنہ تہ ہتھ ہتھ سہہ ہل
 يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ معلوم ہتھ سپد ان
 سم ہتھ انتظار کران مگر اھتھ تھہ کہ تھن ہتھ واتن ملائک تہ پانہ تہہہ پرور دگار۔ تہ

بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
 إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمْتًا مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ
 انظُرُوا إِلَىٰ مَا مُنْتَضِرُونَ ﴿۵۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا
 لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
 يَفْعَلُونَ ﴿۵۹﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِثْلُهَا وَمَنْ جَاءَ
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ قُلْ إِنِّي

وایہ تمہیں نشہ تہمیدس پروردگارہ سند کا نہ بوڈ نشانہ قیامتہ کیونشا کو اندرہ یعنی مغربہ کہ طرفہ آفتاب
 کھنسن۔ دارہ بوزن تم کہ یومر یاتی بعض ایات ربیک لا ینفع نفسا ایمانہا لہ تکلن امتا من قبل او
 کسبت فی ایمانہا خیرا سمہ دوہہ تہمیدس پروردگارہ سند بوڈ نشانہ ظاہر سپدہ تمہ دوہہ دیر نہ کاسہ
 شخصس کا نہ فاسیدہ نہ نفع ایمان ان نہ پڑہ کرن ہم نہ تمہ بردنٹھ ایمان آسہ اولمت یا آسین نہ ایمان
 اتھہ کا نہ رشکاہہ کر مڑلجہ آسہس بچھہ کاسے کرہ مڑہ تمہ دوہہ ہجھونہ ایمان انہ نس اعتبار نہ توبہ کرنس
 نہ تھنن مغفرت مہہ نس اعتبار قلی انظروا انا منتظرُونَ فرماؤ کہ تمہ کہ ہر گاہ تمہ اتھہ انتظار برشان
 ہجھوہ کرن کر وتلہ انتظار۔ اس نہ ہجھہ آپس نہ ہوس منو فیصلہ سپد نس انتظار کران إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ
 وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پڑپاٹ سمو کو کو دینس پنہ
 نس چلہ کرہ نہ بیون بیون کو زکھ یعنی دین حق کو زکھ نہ ہار ہار قبول یا کو زکھ اوڈ قبول نہ اوڈ تردو کہہ۔
 دینس اندر نور لو ہجھہ شرک و بد عتجہ تمہ۔ یہ بنیای الگ الگ جماتہ نہ فرقہ۔ توہہ ہجھونہ تمہن سیت کا نہ
 تعلق۔ تہمید معاملہ ہجھو سپر د اللہ تعالیٰ اس۔ سوونہ پانے تمہ تمہ سارے تمہہ یہ تم کران آس من
 جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِثْلُهَا نس اکھاہ کہہ نیکی ہتھہ یہ ٹسیدہ خیطرہ ہجھہ توشے دہ نیکی۔ یعنی اللہ
 تعالیٰ کرنس اس نیکی دین نیکن ہند ثواب عطا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ
 لَا يُظْلَمُونَ یہ نس اکھاہ کہہ ہدی ہتھہ پیہ نس یہ نہ نس سزا دہ مگر اکی ہدی ہند۔ ٹھنکارن، ہد کارن

هَذَا بِنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۱﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
 وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
 وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۳﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ
 وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ
 رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۴﴾ وَهُوَ الَّذِي

ظلم یہ نہ کرنے قُلْ إِنِّي هَذَا بِنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ فرمادو کہ جبہ یا رسول اللہ پڑپاٹ مہ ہاؤ تھہ پروردگارن پنن راہ را حقس کن، مضبوط
 و یخس کن ہتھہ منز نہ عنہ قسمہ کجر ہتھہ۔ حضرت ابراہیمہ سندس ملتس کن یس آپز یو دنیو نشہ ہزس
 و یخس کن بھر ہوان اوس۔ یہ اوس نہ سو مشر کواندرہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ فرمادو کہ جبہ پڑپاٹ میان نماز یہ میان
 ساری عبادت یہ میون زندہ روزن یہ میون مران یہ سو زوی ہتھہ خاص خدایہ بند ی خیطرہ حمدس
 اختیارس اندر یس کل جماک پروردگار ہتھہ۔ یس ہتھہ شریک کانہ مہ آواکوی حکم کرنے۔ یو ہتھہ
 خدایہ سند یو فرمانبردار بندواندرہ گوڈکوی فرمانبردار قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فرمادو کہ
 جبہ ای کافر و کیاہ یو ژحاند نہ معبود بر حقس و رای یہ کانہ پروردگارہ حالہہ سوی ہتھہ پر ہتھہ عنہ چیزک
 پروردگار وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا کانہ شخصہہ کرہ نہ کانہ کامہ مگر تمیک یو ہتھہ یس پاس و تھہ
 تکلن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کانہ اکھاہ کلہ نہ یہ کانہ بند یو پاس پیئہ قُلْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ تو پتہ ہتھہ پنہ نس پروردگارس کن رجوع کرن یس گرہ سوی توہہ
 خبر تمہہ سارچی ہتھہ منز جبہ اختلاف کران آسوہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۷﴾

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ: یہ چھو سُو پروردگار سُوی سم تجہ زمینس اندر پنن نامیب بناووه یہ کروان
توہ اندرہ بعضین ہند مرتبہ ہند بعضین چوتھہ چتھہ توہہ سُو آزمائش کرہ تمہ نعمون اندر سمہ توہہ عطا
کر کوہ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ: پز پات پروردگار چھو جلد سز اداہ وان یہ چھو سیشاہ
مغفرت کرہ وون سیشاہر ہم کرہ وون



سُورَةُ الْأَعْرَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْقَمْرُ ۱ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ
 مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۲ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ
 إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا
 تَذَكَّرُونَ ۳ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا

الْقَمْرُ ۱ • كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الْقَمْرُ
 -- المعنی پختہ چاندی کی خبر۔ یہ قرآن مجید ہے۔ کتابہ بتا باہ خدا پر سیدہ طرف توہم کن نازل کرنے آئی۔ پختہ
 چاندی کو کہہ کر فرمائی ہند سزا بیان کرنے سیت کھوڑہ ناولا کہہ۔ ہر گاہ کا نہ شخصہ انہ کتابہ ایمان لہ نہ، تسلیم
 گرہ نہ چہ دل نہار کہ نہ سپہن سیت تک۔ کیا زہ کا نہ ہند نہ مانہ سیت تو ہنزہ ہم کر چہ کامیہ اندر
 کا نہ نقصان دل نہ۔ قرآن مجید چہ خصوصیتہ سان وعظہ نصیحت با ایمان ہندہ خیطرہ اتَّبِعُوا
 مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ای لو کو چہ بلکہ معلوم سپہ کہ یہ قرآن
 مجید چہ خدایہ سندی طرفہ نازل کرنے آنت۔ چہ کمر واجتاعہ پیروی کی یہ توہم کن بواسطہ قلمبر بر حق
 نازل آو کر نہ چہ س پروردگارہ سیدہ طرفہ۔ اجاع کزن گو تصدیقہ کزنہ عملہ کرن۔ (خدا اسم
 چہ ہندہ و چہ ہونہ خیطرہ یہ عظیم الشان کتاب نازل کر) تراو چہ نہ کمر و بین رفیقین نہ دوستن ہنزہ پیروی۔
 ہم توہم گرہ گرہ ون نہ سیزہ و تہ بشہ ڈالون چہ انسان شیطانو نہ جن شیطانو اندرہ قَلِيلًا مَّا
 تَذَكَّرُونَ مگر باوجود ہمہ مشفقانہ ہمائش کر چہ چہ توہم اندرہ کی لو کہہ نصیحت رہان۔ تمی چہ گمراہ
 نہ گمراہی زیادہ۔ مگر گمراہن چہ روزن سو کہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا
 أَوْهُمْ قَالُوا لَوْ نَدْرَأُكَ دَارِيَا شَهْرًا نَسْتَعِينُ مِنْزِرُوزہ ون کمر آسہ ہلاک نہ تہا کمر وانکار نہ نافرمانی نہ گمراہی

أَوْهُمْ قَائِلُونَ ﴿۴﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا إِلَّا أَنْ
 قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۵﴾ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
 وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶﴾ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا
 غَائِبِينَ ﴿۷﴾ وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿۹﴾ وَلَقَدْ

ملکہ۔ جس وقت تین بھیرے سون عذاب رات منزی۔ یا تمہ ساتھ ساتھ تم دپیرس شوبھت آس
 قیلولہ کران فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہیں اوس نہ تمہ ساتھ ساتھ
 ساتھ تین بھیرے سون عذاب ہمہ نہ منگہ و انتھہ پیر کا نہ کتھہا تہمدہ چاہند منزہ نیران۔ مگر یہ تمہ کہ واقعی
 ہجرہ اُس ظلم و خطا کرہ دن۔ یہ گو دنیوی عذاب فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ
 الْمُرْسَلِينَ اُسبہتہ گو اُخروی عذاب۔ قیامتک دوہ پر ژحو اُس ضرور لوکن سمن کن پیغمبر سوزنہ آئی۔
 کیاہ توہر بھیرے آئے یہ پیغمبر۔ توہر کیاہ معاملہ کورہ تین سیت۔ یہ پر ژحو ضرور اُس پیغمبرن یہ کہ توہر
 کیاہ جواب دن ہمزہ و اُسو فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ کہیں بیان کرنا اُس تین سارنی برو تھہ
 تھہ ساری حالات پنہ علمہ موجب کیاہ اس جہد یو کارو کر تو تو بھیرے بے خبر آسہ وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ
 الْحَقُّ تھی دوہہ سن لوکن ہمزہ عملہ یہ اعتقادات تو نہ ہر پانھہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ کہیں سمن بند پوخر ایمان سیت یہ نیکیو سیت گوب لھہ تھے لو کہہ اُس رستگار یہ کامیاب
 نجات لبہ دن وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ یہ سمن لوکن بند پوخر لوت لھہ ایمان نہ اند سیت یہ اعمال
 صالحہ نہ آسہ ملکہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ کہیں تھے لو کہہ گئے سمہ
 پنہ نین پانن نقصان یہ تاوان و اتھو کیاہ تم آس سائین آیاتن ہمز حق ظنی کران۔ انکار یہ نافرمانی
 کرنہ سیت وَلَقَدْ مَلَكْنَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ پزپاٹ اُسہ دژ

مَكَّنَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۱۰ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝۱۱
 قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝۱۲ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝۱۳ قَالَ أَنْظِرْنِي

تو بہ ہستہ خطیرہ جای زمینس پیچہ۔ بیہ کور اسہ شہیا تہجدہ خطیرہ اتھہ زمینس اندر زندہ روز تک سامان مگر شکر گزار تہجدہ اندرہ کمی لوکھہ **وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ** بے شک بیہ کردہ اسہ تہجدہ پیدہ یعنی تہجدہ جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پتہ دژ و اسہ تہجدہ شکل و صورت یعنی حضرت آدم علیہ السلام **ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ** تو پتہ کور حکم اسہ ملائکتہ کہ سجدہ دیوون حضرت آدم سن۔ تہس دیت تہجدہ الہیس و رای **لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ** سو اوس نہ سجدہ دنہ والیو اندرہ **قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ** اللہ تعالیٰ ان ہڈ ژخس ای الہیس ژہ کم چیزن روختہ تہجدہ سجدہ دنہ تہجدہ۔ طہر میہ پانہ ژہ **حکم کریای سجدہ کر تک۔** **قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ** ژہ تہ لگ تو ہخوس بہتر حضرت آدم۔ سجدہ خوتہ کیا زہ تو کور تہس پیدہ تارس سو کور تہس پیدہ میزہ۔ آہس یعنی ژہ **قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ** اللہ تعالیٰ ان فر موس ژہ لویہ بچن پان تو ڈ بوژنہ تمی کر تہجدہ میانس خمس نا فرمانی۔ لہذا لوس یون آسانہ تہجدہ۔ ژہ پزی نہ کبر۔ نا فرمانی گرن اتھہ آسانس منزیا سہ جای تہجدہ فرمانبر دارن ہنز لہذا تہجدہ جلد بے شک ژہ تہجدہ ذلیل و خوار گودہ دیو اندرہ **قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ** الہیس لگ و تہ پروردگار امیہ دنہ مہلت مر نہ تہجدہ قیاس تان سمیہ دوہنہ ساری یں قبر و منزہ تہجدہ کڈنہ۔ **قَالَ إِنَّكَ مِنَ النَّظَرِينَ** اللہ تعالیٰ ان فر موس بے شک تہجدہ تہجدہ مر نہ تہجدہ مہلت دنہ آتیو اندر وقت معلوس

إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۱۳﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿۱۴﴾ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي
 لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
 شَاكِرِينَ ﴿۱۶﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
 لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْبَعِينَ ﴿۱۷﴾ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
 الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
 مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ

تَان قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ابليس لوگ ورنہ تیری کور تھس نو گراو۔ اھہ
 بدل کر کہہ نو تہ نی آدم گراو۔ تم ہتھ ہتھس نو دوان کہ ضرور بہمہ نو تم گراو گرنہ خیطرہ چاہہ سیزہ و تہ
 تھہ بر و تھہ و تھہ نہ پھنہ تھہ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ
 أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ تو پتہ تھہ نو حملہ کرنہ خیطرہ پر تھہ طرفہ تھن بر و تھہ کن تہ، تھہزہ تھہ کن تہ
 تھن د تھن تہ، تھن کھو فر تہ۔ اھہ پانھہ تھن سہر تھہ تھہ پانھہ ڈا تھہ نو تم سیزہ و تہ تھہ۔ چنانچہ تہ بہ
 ہتھ نہ تھہ اندرہ زیادہ تھہ گزار چائن تھہ قال اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا اللہ تعالیٰ آن
 فر موس خوار و ذلیل سپد تھہ نیر جلد نیر آسا نو اندرہ۔ تہہ و تان تھہ کہہ کہہ نو ڈا تھہ تم، گروہ ڈا تھہ۔
 نو ہتھس نہ پرو ابران کانسہ ہندہ عبادت کرہ تھہ لَنْ تَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْبَعِينَ بہ
 تھس چان بیروی کرہ تھہ اندرہ تہہ کہ و تہ تھن ہونار تھہم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ
 حَيْثُ شِئْتُمَا اسہ فر موس حضرت آدمس، ای آدم، بہو تھہ تھن با تھہ تھس منز۔ تھس کھبو تھہ
 تھہ اندرہ سمہ تھہ خوش خوش کر تھہ، تھہ چاہہ خوش کر تھہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مگر نزد یک سپد زہ نہ
 تھہ دو تھہ تھہ کھس یعنی اسہ کھیک میوہ تہ پھل کھیزہ نہ ہر گز فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تھس سپدوہ تہہ

عَنْمَا مِنْ سَوَاتِيهَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۴۱﴾ وَقَاسَهُمَا آتِي
 لِكُمَا لَيْسَ النَّصِيحِينَ ﴿۴۲﴾ فَذَلُمَهُمَا بَعْرُورًا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
 سَوَاتِيهُمَا وَطَفِقَا يَخْضِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا اللَّهُ
 أَنَّهُمَا عَنْ يَدِكُمَا الشَّجَرَةُ وَالْقُلُوبُ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۴۳﴾
 قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

نفسان کلمہ و نیو اندرہ قوموس لہما الشیطان لیبیدی لہما کماوری عنہما میں سواتیہما نفس تروو شیطان
 تہدین دن اندر و سوسہ نتھ شراوہ سو تہن بد تک سو حصہ نفس تہن اکھہ اکس ہشہ پو شیدہ اوس۔ یہ
 آساتہ کلک خاصیت، یا حکم عدولی کرنے موکھہ وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا
 مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ذپنہ لو کھہ پرور ڈگارن تہدہ کمر نہ توبہ ممانعت امہ کلہ ہشہ مگر کی موکھہ
 کمر تہہ گو حونہ جن ملک زہ یا گو کھ نہ تہہ جن ہمیشہ زندہ روزہ و نیو اندرہ وَقَاسَهُمَا آتِي لِكُمَا لَيْسَ
 النَّصِيحِينَ بیشک نو محسوسہ تہدہ نو ذخیر خواہ فَذَلُمَهُمَا بَعْرُورًا نفس تہدہ مز تہہ ہشہ یا تہزہ
 رلیہ ہشہ ہمت رلیہ کن والن یون۔ مایل کمرن ڈھوکہ سیت امہ کلک پھل کھنیں پوتھہ فلَمَّا
 ذَاقَا الشَّجَرَةَ نفس یا تہہ مزہ ڈھہ تموا امہ کلہ کمر پھلک بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِيهُمَا تان گئے تم کھہ۔ جبکہ
 بد نہ پوتھہ و تہہ لباس تہدہ خود بخود ظاہر سپد تہدہ سوزوی ہڈان وَطَفِقَا يَخْضِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ آتی
 لگ ڈوشوے جنگ پنے و تہہ کھہ اکس سیت ملہ و تہہ پاس پوتھہ تھاونہ بد نس ستر کرنے خیطرہ و نَادَاهُمَا
 رَبُّكُمَا أَنَّهُمَا عَنْ يَدِكُمَا الشَّجَرَةُ وَالْقُلُوبُ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ تہہ وقتہ کور آلو تہن ڈوشون جن
 پرور ڈگارن۔ ای آدم حوا، مہ کمر و نا تہہ منع امہ کلہ ہشہ۔ یہ و نونا مہ تہہ ہڈیاٹ شیطان ہتھو تہدہ کون
 دشمن۔ تہہدہ اسمزن کھن کن تھادو قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِدِينَ
 ڈوشوے لگ و نپہ ای سانہ پرور ڈگارہ امہ کور ظلم پان پاس۔ و ون لے ڈہ امہ مغفرت کر کھہ یہ رحم

الْخَيْرِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
 الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا
 تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿۳۵﴾ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
 يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنَ
 آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿۳۶﴾ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

کہ جسے اس سیدو ضرور نقصان تکہ و نیواندرہ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ
 مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اللہ تعالیٰ ان فرموا کہ جلد منزهہ و سونون زمینس بیٹھتے ہتھہ جالس منزجہ توہ
 یعنی خیمہ اولاد آسن پانہ وان اذ انن ہند دشمن۔ یہ آونجہ ہہ خیطہ تجویز کر نہ زمینس بیٹھتے قرار کرن۔
 یہ تمیح کل معیشہ کیو اسانو سیت۔ اس خاص و قس تام۔ یعنی مرہس و قس تام قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ
 وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللہ تعالیٰ ان فرموا کہ اتھہ زمینس منزجہ توہہ زندگی گزارن۔
 اتھہ زمینس منزجہ توہہ منزت روزن۔ اسی زمینہ منزہ۔ اوکڈنہ قیامتک دوہ۔ تمہہ پتہ نس۔ پوہہ عمل
 آسہ توہی یہ نس جای دنہ۔ رثہ عملہ ولس رثہ جای پتھہ عملہ ولس پتھہ جای يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا
 عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا اسی حضرت آدمہ سند یو پتھو یو، تھنن پیدہ کور آسہ خیمہ ہہ
 خیطہ ہہ شاک، نس خیمہ س عیب ہاک بدنس ولہہ تہ ستر کرہ۔ یہ نس خیمہ ہہ بدنگ نہنت ہتھو ولباس
 التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ یہ ہتھو آسہ ظاہری لباس علاوہ باطنی لباسا یہ آسہ خیمہ ہہ خیطہ تجویز کورنت۔
 سوگو پر ہیزگاری تہ دینداری ہند لباس۔ سو ہتھو آسہ ظاہری لباسا ہتھو سینشاہ ضروری تہ ہستر۔ ذَلِكَ مِنَ
 آيَاتِ اللَّهِ یہ لباس ظاہری ہتھو خدیہ سیدہ فضل و کرمہ کیونشانو تہ دلایو اندرہ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ہتھہ
 لو کہ یہ نعمت وارہ یاد تھاوتھہ معمم حقیقی سند حق اوا کرن۔ اسلامن ہتھو کورنت مردن ہند لباس الگ
 زنان ہند لباس الگ۔ نس پڑہ تہ مردن زنانہ لباس لاغن۔ زنانن پڑہ تہ مردہ لباس لاغن۔ مردن ہتھہ
 آور ہتھی لباس حرام کرنہ۔ ہم مزد و نیامس اندر رہتھی لباس استعمال کرن تم آسن جتھہ رہتھی لباس

كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكْمُومٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِرَ
 إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ
 أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا
 عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّا لَأَعْلَمُ بِمَا اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

بیشتر محزون۔ زمانہ پوچھ آؤ تو ان سے ہار پیک لباس حرام کرنے سے منہ بند کر یامس، کھلک موی بوز نہ ایسے۔
 لمبی پابندی کرن۔ یہ گو لباس تقویٰ یَبْنِيْ اَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكْمُومٍ مِنَ الْجَنَّةِ ای
 حضرت آدم سے بند ہو چکا ہے جب تقویٰ سے پرہیز گاری بند واجب آسن معلوم سپد سپد تو بہرہ معلوم کہ
 شیطان کو تارہ دشمن چھو چھو دونے چھو تو بہرہ شیطان ڈالتھ تقویٰ پرہیز گاری سے دشمن خلاف کئے گئے
 پتلا کتر تھ خرابی اندر تراویہ۔ چھ مول مول چھو حضرت آدم سے حضرت حوا جنت منزہ ڈالتھ کڈن۔
 يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِرًا تو پتہ کڈن تم تھ حاکس منزہ کڈن اوس لباس چھو چھو ہد نہ
 پوچھ۔ چھ پانچ نر اوہ سے چھ کرہ چھو نہ مشور سے پتہ شیدہ بدن۔ چھ پانچ اسپہ بیان کور کہ سو چھو چھو سخت
 دشمن تمس بشیر کتر و پور احتیاط۔ زیادہ تاکید چھو اس تو بہرہ سمہ موکھ کران إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ
 حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ بیشک کہ سو سے بہرہ چھو لشکر چھو تو بہرہ و چھان چھو پانچ تھ پانچ نہ چھو چھو سون
 و چھو چھو ہیکان۔ چھو دشمن بشیر پڑہ سخت پچلوچ صورت اختیار کرن۔ سو پچلوچ صورت چھو چھو کئی
 ایمان سے تقویٰ درای إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بیشک اسپہ کتر شیطان دوست سے
 رفیق تین لوکن ہند سمہ ایمان آنان سے ہڑہ کران چھو کس خدائس وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا
 عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا سمہ لو کون ایمان اُون تین پوچھ چھو شیطان سے تسلط ختم قسمہ کہ
 یلہ تم لو کہ کا نہ چھو کاماہ کران چھو۔ دنان چھو اسپہ و چھو مال بڈب بچن ای کران۔ یہ چھو نعوذ باللہ
 خدائی اسپہ کر تک حکم کورمت۔ چناچہ تم آس چھو خانہ کعبہ طواف کران کا ہے منع اوس چھو کران
 جواب آس دپان اسپہ چھو خدایہ نی اسپہ حکم کورمت قُلْ فرما یو کہ چھو یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ

اتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ أَمْرِي بِالْقَسْطِ
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ هُوَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۳۹﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ
فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۴۰﴾

و سلم) إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْتُرُ بِالْفِتْنَاءِ بیشک اللہ تعالیٰ بخونہ ہرگز بچھہ کا میں ہند حکم کران۔ یہ کیا ہجھو شہ
بکواس کران اتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کیا تہہ ہجھو خدائس کن تی لاگان تیگنہ توبہ ہجھو کانہ
خبر او ہجھ۔ کانہ دلپا ہجھ۔ قُلْ أَمْرِي بِالْقَسْطِ فرمایا کہ میان خدائس ہجھو حکم کورمت عدل و
انصافک۔ پر تھہ کامہ منز افراط و تفریط ہجھہ ہجھہ تک وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ یہ
ہجھون کورمت تھہ تھا و وسیوڈ پر تھہ عبادتس اندر۔ متوجہ روز و دل۔ سیت خدائس کن یعنی پوطل یا
یہ کانہ چیز منہ آسیون برو تھہ کنہ زمان وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ آسو تھزی یاڈ عبادت
کران۔ تہس یات ہن حاجت منگان۔ باخلاص آسو تھزی فرمانبرداری کران۔ ہم ہجھہ پروردگار ہسہ
حکم ہم مانو کیا زہ ہم فرماونہ توبہ ہم حکمی یات ہس۔ بلکہ یہ سو توبہ اکہ دوہہ تہن تھن تھہ حساب ہ
کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ چنانچہ ہجھہ پانچہ گوڑہ پنہ قدر ہ سیت ہم تھہ پیدہ کتر کوہ تھہ پانچہ سپد یوہ تھہ
دوبارہ پیدہ کر نہ ایو۔ تھی وقتہ ہجھہ توبہ حساب ہینہ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ دنیا ہس
اندر ہا وائس جمائس اللہ تعالیٰ ان و تھہ۔ تہن دیہ رش زور۔ ہس جمائس پنہہ کرن مقرر گمراہی۔
تہن یہ سزاونہ کیا زہ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تمو کیا رب شیطان ہن
دوست ہ رفیق خدائس تراو تھہ۔ یعنی خدایہ سزا طاعت ہ فرمانبرداری تراو تھہ کر کھہ شیطان ہنز
فرمانبرداری وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ یہ آس ہم خیال تھاوان تہہ اس ہجھہ ہدائیس ہ راہ
راستس پنہہ تھس خیال محض باطل ہ غلط اوس يَنْبَغِي أَدْمَعُنَا وَازْبُرْنَا لَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ اکی ہی آدمو

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا زَكٰتَ ۙ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا
 تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۷۷﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ
 اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي

یہ توہمہ معلوم ہے کہ ننگے طواف کرنا، چھو خدا بیزار لہذا آسو نہ، ہوشاک لاگان پر ہتھ وقتہ۔ یاہر بلکہ
 کانہ عبادت کرنے، خیطر مسجد، منز حاضر سپدان آسو نماز پر نہ، خیطر یا طواف کرنے، خیطر طواف، نماز
 مہ آسو پر ان ننگے۔ ہتھ پانہ ننگے روزن، چھو شیطانہ سز گمراہی۔ ہتھ پانہ، چھو حلال چیز حرام کرن،
 شیطانہ سز گمراہی، **وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ** لہذا آسو نہ، حلال چیز کیوں نہ
 چوان مگر مہ آسو اسراف، فضول خرچی کران۔ پناہر اللہ تعالیٰ، چھو نہ راضی اسراف، فضول خرچی
 کردہ و نین سمن آیات کر یمن منز، چھو اللہ تعالیٰ رذکران تین لوکن سم خانہ کھنس ننگے طواف آس
 کران۔ ہتھ آس زانان بڈ عبادت، بعض لوکھ آس شمعہ کین دو نین کیوں چون تراوان۔ کم کنیو حواہ آس
 کیوں سمہ سیت ہ کھنسن و سن باقی روزہ ہا۔ مازیگنہ کیوں آس کلینا تراوان۔ سمن سارنی، چھو اللہ تعالیٰ
 فرماوان کہ یہ کرن کانہ رڈ کاما ہ چھنہ تقویٰ و پرہیزگاری ہنز کوماہ چھنہ۔ یہ چھو محض شیطانی وسوسہ۔
 خد لہر سند عطا کورمت لباس، ہوشاک سمہ سیت، ٹھنہ بدن و لہر روزن ٹھنہ بدین، ٹھوب چھنہ یہ
 آسو پر ہتھ وقتہ لاگان عبادت کر ہتھ وقتہ، چھو زیادے مناسب رت ہوشاک لاگن۔ خدا این یہ توہمہ لاگنہ
 خیطر یا کھنہ چون خیطر عطا کورمت، چھو تمیک آسو تمیح، فائدہ نکالان۔ مگر شرط چھو چھو ہی ہ اسراف نہ
 آسو ہتھ روزان۔ اسراف گوحد و لہر ڈن، مہ آسو کران۔ ہتھ اسرافس ہتھ واریاہ صورتہ۔ حلال
 چیز مہ آسو حرام کران۔ ہتھ گو اسرافنے یا ہر خوری، پے خوری کران، گو اسرافنے۔ یا میل، خواہش
 آسنہ درائی کیوں، گو اسرافنے۔ یا ثبات، کم کیوں یہ سیت بدنس تو تھی حاصل سپدہ نہ، یا تم چیز
 کھنن، چین نہ استعمال کرن سم مضر صحت آسن شراب ہنو، آفین ہش، ٹموکھ ہنو، گو اسرافنے۔
 بعضی سلف صالحینو فرمود کہ اللہ تعالیٰ ان چہ جمع کر مٹ ساری بلب الوس آہ کر سمنس اندر۔ سو گو
 " **وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا** " پر ہتھ قسمہ کین اسراف کردہ و نین، چھو اللہ تعالیٰ بیزار۔ امیہ ہتھ چھو اللہ
 تعالیٰ فرماوان سم لوکھ لباس ولن، طعام کیوں، چون حرام چھہ زانان تین ہر ڈھونہز نہ۔ **قُلْ مَنْ حَرَّمَ**

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
 وَ الْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
 وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ

زِينَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ سمہ ای لو کونہ ونحو کہ کم شخصن کوز سوزنت
 ۳۱ شوب حرام۔ نس اللہ تعالیٰ ان پیدہ کور پنہ نمن ہمدن ہمدہ خیطرہ۔ ہر کم شخصن کمر رت رت میٹھ
 ۳۲ پاکیزہ کھیک چیز حرام۔ حرام کر تک اختیار ہتھونہ خدا نس ورا ای کانسہ ہر۔ تم بلکہ حلال کردون کلمہ
 کر زین سونس تین چیزن حرام ہیکہ کہہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَجْمٌ كَرَامًا وَيُكْفَى بِهِ
 زینت، لباس ۳۳ قدرت کھیک ۳۴ چیک چیز ہمدہ فی الحقیقت بالیمان ہمدہ خیطرہ دنیا س اندر خالصہ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر آسن سمہ نعمو قیامک دودہ ۳۵ خالص بالیمان ہمدہ خیطرہ۔ اگرچہ کافر ۳۶ ہمدہ سمہ نعمو
 سیت فائیدہ ٹھان مگر یہ گو دنیا سی اندر۔ آخر نس اندر نیرہ تین سوزوی کھیومت چیومت نسہ کن
 كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ہتھ پانھ آس ویشہ ناوتھ بیان کران ساری آیات زانن والین ۳۷
 سمھدار لوکن ہمدہ خیطرہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
 وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ سمہ فرماو کہہ یارسول اللہ ای لو کونہ سم چیز پانے بلا دلیل حرام زانتھ تراوان ہتھو کہ۔ بعضی
 وقتہ ہتھو ونان ہم چیز حرام آسن ہتھو خداینی فرمودنت یہ سوزوی ہتھو ہتھ ۳۸ ہستان۔ سمہ فرماو یو کہ
 میان پروردگارن کوزنہ حرام کانسہ چیز مگر سارے ہتھ کابہ نمن پانھ ۳۹۔ مثلاً ننگے طواف کرن پوشیدہ
 پانھ ۴۰۔ مثلاً ہتھ کاری کرن یہ ہتھ ہتھماہیہ کانسہ چیتھ ناحق ظلم کرن زیادتی کرن وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
 يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یہ کور اللہ تعالیٰ ان حرام کانسہ چیز او سمہ س عباد نس
 اندر شریک تھوان۔ سمہ س شریک آس چیتھ تم کانسہ دلیلہ نازل کر مہ ہتھ۔ بیہ کر تم حرام سمہ
 کیاہ ٹھرو لو نس چیتھ تے تھہ یمن ہنز نہ کانسہ خبر او سمہ۔ کانسہ علماء ہتھو۔ ہر گاہ کانسہ یہ سمہ گوہر سمہ
 ہر گے سم چیز ممنوع ۴۱ نا جائیز ہمدہ تلمہ کونہ ہتھو اللہ تعالیٰ یمن مخر من سزا دوان۔ تمیک جواب ہتھو سمہ

أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۱﴾ يَبْنِي أَدَمَ إِمًّا
يَأْتِيَنكُمْ رَسُولٌ مِّنكُمْ يَفْقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَن اتَّقَىٰ وَأَصْلَمَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۲﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۳﴾ فَمَن
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ

وَأُولَٰئِكَ أَتَىٰ أَجَلٌ فَلَمَّا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یہ جھو پر جھو اُتھ پر جھو فرودہ
سیدہ نیر نہ خیر نہ خیر نہ وقتہ معین کرنے آنت۔ پس یہ سو معین وقت واد۔ تمہ سادہ نہ بیکن تم پتہ نیر تھ
نہ بیکن تم برو تھ جو تھ تمہ معین وقتہ بھو یبئی آدم ایما یا تینکم رسل مینکم یفصون علیکم ایتی ای
نئی آدمو اسہ اوس عالم ارواح سی اندر توہر دونست کہ یہ توہر بھو وان تغیر سم توہی منزہ آسن تھے
بدن نہ بوڑہ ناؤن توہر میان آیات فَمَن اتَّقَىٰ وَأَصْلَمَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس پس
اکھاہ توہر اندرہ تمین آیاتن انکار کرنے بھو پتہ روزہ یہ سبھاہ پن پان ر ژو عملو سیت یعنی پورہ اجاب نہ
بیروی کرہ پس جھونہ آخرتس منز تمین لوکن کانسہ خوفانہ سپدن تم عملکین وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سم لوکھ جبہ اندرہ لہر زان تم آیات نہ احکام
سان۔ یہ کرن جھنر سم آیات قبول نہ تسلیم کرنے بھو تھے لوکھ آسن نازس اندر و اتن وال۔ تھ
نازس منز روزن ہمیشہ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ
نُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ یہ توہر بمکل پانہ معلوم سپد کہ مھرن جھو عذاس گرقار سپدن پس بوڑو بتفصیل
کہ کبہ اکھاہ جھو بوڑو ظالم تمین لوکن ہندہ خوتہ سمو نوڑو معبود بر حٹس پیٹھ اپن یا زاکھ اپز جھد آیات یہ
نہ تم فر موامت جھو نہ تس گن۔ یہ تم واقعی طور فر موامت جھو تھ کو رکھہ انکار۔ تمین گن ولتہ دنیا اس
اندر پن حصہ پس تمین ہندہ خیرہ لیکن نہ آنت جھو لوچ جھو ٹس اندر رزقہ منزہ یا عمرہ منزہ دنیا اس
اندر۔ مگر آخرتس اندر جھو ہندہ خیرہ مصیبتھی مصیبت۔ حتیٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُحَقِّقُونَهُمْ

يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۲۰﴾
قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ
فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا
جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَادِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَذِنَهُمْ

تا ایچھ پلہ دا آن تین نیشہ ملک سان بسختی قبض روح کرنہ عیطرہ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تم ملائکہ دیکھو ڈھیس کت گئے تم تم من تہہ معبود برحق تراوت عبادت آسہ کران۔
سمہ مصیبت کہ وقتہ کونہ بھہ تم توہیہ کامہ یوان قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا تم کافر دین تم ساری راویہ ضائع گئے آسہ نیشہ یعنی بندہ آئی نہ تم آسہ بکار وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ آسہ وقتہ دن گواہی پندہ نین پانہ پٹھہ یعنی اقرار کرن زہ تم آس واقعہ کافر۔ مگر آسہ وقتہ اقرار کرنس نہ نادوم و پشیمان سپد نس بھونہ کانہ اعتبار قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ اللہ تعالیٰ فرماویچھ اژو تم کافر جماژن سیت تم توہیہ نرو نٹھہ کڈرے مڑوہ بھہ جنوہ انسانو اندرہ نار جہنمس اندر
کَلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا پلہ پلہ اژان آسہ جہنمس منزاکہ اکھ جماعتھو۔ سو آسہ لعنت کران پانسی بھہ ہمیس جماژ۔ یعنی تین آسہ نہ پانہ وان کانہ ہمدردی بلبھہ آسن اکھ اکھ بھہ نظرہ و چھان حتیٰ
إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا تا اینکہ پلہ ساری من جہنمس اندر قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلَادِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا
فَأَذِنَهُمْ عَدَابًا ضَعُفًا مِنَ النَّارِ ویدہ پتہم جماعت تم تابع روزت کھر کران آس برو ٹھہہ جماژ ہندہ
عیطرہ ای سانہ پروردگارہ بیوی کیا ڈال اس کیا زہہ تم آس سانہ نٹھہ۔ نس کر تم سانہ ٹوہہ ڈوگن
عذاب نار جہنمک قَالَ لِكُلِّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرماویچھ پرستھہ اس بھو ڈوگن
عذاب۔ مگر توہیہ بھونہ معلوم۔ وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ قَضِيلٍ قَدْ ذُوقُوا

عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾
 وَقَالَتْ أُولَٰئِهِمُ الْخُرْبَةُ ۖ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ
 فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَلُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ
 نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۰﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ
 وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ یہ ذبح گوزیج جماعت تموا اند زہ پتھس جماعتس نھس کیاہ زیادتی بنے یہ توبہ
 آسہ پیٹھے۔ نھس ژہہو عذاب تھن تجھہ کاہن بدل سمہ توبہ کران آسہہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا
 وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَلُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ پڑپاٹ سمولو کواہہ زان سان آیات یہہ کوزکھ سخر تم
 آیات قبول کرنہ نھہ ہرگز منہ مژر لونہ جہنم ین روض ہمدہ خیطرہ آسان ہمدہ دروازہ ہمدہ من تم دار تھہ
 ونہ نہ واتا ونہ نکل پاتالس منز۔ باہمان ہمدن روض ہمدہ خیطرہ من آسان ہمدہ دروازہ نور نہ۔ جہدہ
 روض من واتا ونہ اعلیٰ علیینس منز۔ وَلَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یہہ اژن نہ نھہ نہ کافر جنٹس حَتَّىٰ یَلِجَ
 الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ لا تان نہ دو تھہ اثرہ سوزہ یہہ کن۔ دانہ سند شرنہ یہہ کن اژن ہتھہ پانھہ
 نا ممکن نہ محال ہتھہ پانھہ ہتھہ کافر ن نہ مٹر کن ہمدہ جنٹس واژن نا ممکن نہ محال۔ ہممل ہتھہ عربی پانھہ
 ونان و ہتھہ رزہ نہ ہتھہ دراب ونان ہتھہ۔ و ہتھہ رزہ ہمدہ سوزہ یہہ کن اژن نہ ہتھہ محال نہ نا ممکن ہتھہ
 پانھہ ہتھہ کافر نہ مٹر کن ہمدہ جنٹس منز واژن نہ محال۔ سوزہ ہتھہ زیادہ مناسبت و ہتھہ رزہ سبت نھس
 سبت مناسبت آسہہ اعتبارہ و کذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ہتھہ پانھہ کیاہ مواکس سزانا فرمان لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ
 مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ جہدہ خیطرہ آسہہ جہنمہ کوی و ٹھرن۔ یہہ ٹھن

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿۴۶﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
 وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۷﴾
 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا

تمہ کوئی دارن۔ یعنی پر تجھ طرفہ آسہ تمہن ہاری نار۔ آسہ ہجہ تمہن ظالمین بخوی سزا دارن۔ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ سہو
 لو کو ایمان اداں خدایہ سیدین آیاتن یہ کر بھہ رثہ عملہ۔ رثہ عملہ کر بھہ ہتھونہ توت مشکل کینہہ ہ۔
 کیا زہ آسہ ہجہ نہ کانسہ شخص زور کر ان عمل کر تک مگر جوئی ہن ایشہن سو بھہ۔ تے لوک ہجہ جنس
 منزواتن وال سم ثوت واتھہ ہمیشہ روزن تھہ منز۔ یہ آسن نہ جہنمین ہمد پاتھہ کھہ آسہ سیت ہ کلامی
 کر ان کیا زہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ اس کڈو جہہ یو دلواندرہ ساری رنجش۔ یہ آسہ نہ کانسہ
 ہن ہند تھو در تہ تھو در جہہ و ہجہت ہا خوش یوان ہجہ آسہ پر تھہ اکھاہ پتہ پتہ جایہ خوش تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔
 فرحت تہ نرورہ سیت آسن تم دنان حمد و ثنا یون تس معبود بر جس سم و تھہ ہاؤ آسہ تم کائین کن یمن
 کائین ہنز منز در یہ جنت ہجہ۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اس یہ ہجہ ہونہ واتھہ تہ و تھہ لہجہ۔
 ہر گاہ تے آسہ اللہ تعالیٰ و تھہ ہاؤہ ہا لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ واقعی سانس پروردگارہ سید پیغمبر
 آئے آسہ ہجہ پزہ تھہ ہجہ۔ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو پتہ لہجہ ہڈہ
 آلودن۔ ای جنتیو سم جنت آی تو بہہ در اللہ پاتھہ عطا کرنہ۔ تھہ بدل یہ تھہ کر ان آسہہ دنیاء س اندر
 رثو عملو اندرہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبِّنَا حَقًّا یہ ہجہ جنتی جنت

رَبَّنَا حَقًّا فَعَلْ وَجَدْتُمْ تَأْوِدَ رَبَّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ
 مُؤِذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۱﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ
 عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿۱۰۲﴾
 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

منزواتن بین خوشی = فرحت ظاہر کرنے خیطر وہیہ جہنمین ہند حسرت = افسوس زیادہ کرنے خیطر وہ دن تم
 ہمہ ساء جہنمہ کین لو کن کن آلو۔ ای جہنمیو پز پاتھہ آسہ سیت لیس وعدہ سان پرور دگارن کورمت اوس ہمہ
 ایمانس = رشن عملن بدل کردہ ٹوہہ عطا جنت = لوب آسہ حق = پوز **فَعَلْ وَجَدْتُمْ تَأْوِدَ رَبَّكُمْ**
حَقًّا ای جہنمیو تہہ ڈلو کیاہ توہہ = لہوہ سو عذاب سمیک وعدہ اوسوہ کورمت پرور دگارن بین پوز =
 واقعی۔ کہ کفر سبہ واقاودہ نار جہنمیس اندر۔ کیاہون آیدہ نوزنہ بین ٹمر ای = خداور سولہ سند فرمان
 حق = پوز آسن **قَالُوا نَعَمْ** تم ذہن جواب واقعی اللہ تعالیٰ سند = جہمیس جہنمہ برحقہ سند فرمان در او
 باکل پوز **فَأَذَّنَ مُؤِذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ** لیس وہیہ آلو دودہ ناہ آلو۔ ہمہ سیت جہنمین
 ہنز خوشی = سرت زیادہ سپدہ جہنمین ہند حسرت = افسوس ہرہ کہ لعنت خداونسا ظالمین۔ **الَّذِينَ**
يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ہم ظالم تہہ بھران آس خدا لہ سزہ وہیہ
 نہہ تہند دین قبول کرنے نطہ بلکہ آس ژھاٹدان دین حقس منز پنہ خیال نہیرہ ناکانہ، بچ کتھاہ۔ کانہ
 عیباہ۔ تہہ تمن اعتراضک موقعہ بہہ ہ۔ بہ آس تم آخرتس = انکار کران۔ سمیک نتیجہ تم از ظلان۔ **حَصْبٍ**
وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ سمن دوشون فریقن منز۔ جہنمین = جہنمین منز آسہ اکھ ٹھوراہ = اکھ دیواراہ۔ ہمہ
 ٹھرہ = دیوارہ سیت جنگ اثر جہنمیس کن واماں آسہ نہ = جہنمک اثر جہنمیس کن واماں آسہ نہ۔ ای
 ٹھرک = دیوارک ہیر ہم حصہ تہہ ٹھو نااعران۔ تمہ پٹھہ آسہ نظر جہنمیس پیٹھہ = جہنمیس پیٹھہ =
 نوزنہ آسن بیان تمہ پیٹھہ جہنمی = جہنمی = **وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ** اعرانس وٹھہ
 آسن واریاہ لوکھ ہم سمن دوشونی جہنمین = جہنمین = ہرزہ ناؤن پنہ پنہ علامتہ سیت۔ سوگوای
 کہ جہنمین ہند تہہ آسن سفید = روشن۔ تمن آسہ تہہ پٹھہ ٹوروسان۔ جہنمین ہند تہہ آسن سیاہ =

وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمَّا بَدَأُوا يَدْخُلُونَهَا وَهُمْ يَطْعَمُونَ ﴿٦٧﴾
 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا
 تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا
 يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيَاهِهِمْ قَالُوا مَا آغَىٰ عَنْكُمْ جُوعَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
 تُسْتَكْبِرُونَ ﴿٦٩﴾ أَهْلُوا الَّذِينَ أْقْسَمُوا لَا يَبْلُغُونَ اللَّهُمَّ بِرَحْمَةٍ

صحف۔ تمّن آسہ ہتھہ پونھہ تاریکی پشپان۔ اعراف پٹھو اکھ کو ہاکھ جٹس = جہنم منز باگ۔ عتہ من
 تھاوندہ تم لوکھ سمن ہنزہ نیکی نہ ہدی برابر آسن تو لکس منز لچرہ۔ پھولا کہ وا تن تم = جٹس خدلیہ سیدہ
 فضلہ سیت و نَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمَّا بَدَأُوا يَدْخُلُونَهَا وَهُمْ يَطْعَمُونَ ہم اعراف منز روزہ دن
 لوکھ و تن آلودت جنتہ کین لو کن ای جنتیو سلام یونیوہ۔ ہم آسن نہ ویدہ جٹس منز ٹامت مگر سخت
 خواہش = امید آسکھ تھہ منز وایج۔ حدیث شریف منز جٹس منز پٹھو آنت کہہ تھز امید پیہ پوزہ کرنہ۔ جہنمہ
 خیطر ہ سپدہ حکم جٹس منز اژ تک وَاِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو پتہ یلہ ہنزہ آہتھہ تارہ کین لو کن کن بھر نہ من یعنی یلہ تم اعراف کین لو کن
 جہنم من پیہ نظر پیہ۔ خوف کھتھہ گلن ڈپنہ ای سانبہ پروردگارہ آسہ نہ تھاو سمن ظالم سیت عدائس منز
 شامل و نَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيَاهِهِمْ قَالُوا مَا آغَىٰ عَنْكُمْ جُوعَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ
 تُسْتَكْبِرُونَ تھہ پانھہ اعراف کینو لو کو جٹس سیت سلام و کلام گور تھتھہ پانھہ دن تم آلو جہنمیہ منزہ وار سمن
 لو کن سمن تم پرزہ ناؤن جہد یو علامتو سیت کہ ہم تھہ کافر جہنمی کیا زہ تم آسہ تھہ پونھہ تاریکی پشپان۔ تمسی
 وہن ای جہنمیو کتہ آلو نابکار توہہ ہن جماعت۔ بہر ڈیت نہ توہہ کانسہ فاسیدہ عظیم و غرورن۔ پن پان
 آسہہ تھہ بوڈ بوزنہ یوان۔ مسلمان با ایمان آسہو و چھان پتھہ نظرہ۔ پیغمبرن ہنز فرمانبرداری آسن نہ توہہ
 گوارا دھان أَهْلُوا الَّذِينَ أْقْسَمُوا لَا يَبْلُغُونَ اللَّهُمَّ بِرَحْمَةٍ کیا ہم جٹس منز وایج عیش کر ان تھہ سبے
 چھاتم سمن مصلحت قسم باوہو آسہہ تھہ وہن تھہ سمن زچورن کرہ نہ اللہ تعالیٰ ہن رحمت عطا۔ و چھان

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۷﴾ وَنَادَى
 أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۸﴾ الَّذِينَ
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَعِبًّا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ
 نَسَبْنَاهُمْ كَمَا نَسُوا الْقَاءَ يَوْمَ هُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا يَلْبِغُونَ ﴿۹﴾
 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً

بجہتہ یعنی ہندہ حقہ سہد حکم خدایہ سبہ طرف اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ای
 غریب با ایمانوا اثر و جنس یتیمہ توہمہ زانہہ کانہ خوف نہ کانہ غم آسہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ
 الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ جہتہ پانچہ جنتیو کمرہ کتہہ جہنمین سیت تہتہ پانچہ دن ناد
 جہتہ تک لو کتہہ جنتہ کین لو کتہہ ای جنتیو۔ نو جہتہ سیت۔ تہ تریشہ سیت۔ جہتہ کو ٹھن زبو پھنمہ۔ تراووناسہ کین
 کتہہ تریشہ والاد۔ یادو آسہ کتہہ حاہ تمہہ منزہ یہ توہمہ اللہ تعالیٰ ان کتہہہ خیطرہ عطا کورمت ہتھو۔ قَالُوا إِنَّ
 اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ جنتی وہتھہ اللہ تعالیٰ ان جہتہ سم دو ٹھوے چیز یعنی جٹک کتہن تہ جین حرام
 کورمت کافر ان پیئہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَعِبًّا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تہن کافر ان پیئہ سمو
 وئیاءس منز دین تہن نئس قبول کران تہن پیئہ واجب اوس۔ زورمت اوس تماشہ تہ جہتہ ناہ۔ یہ اوس تہن
 وھوکہ و نحت و نیچہ زندگی۔ تہن اوس خیال زہ تر کوی ہتھو نہ زانہہ تہی سبہ اوسکتھہ سو زوی
 مشر وومت۔ دیک آس نہ بران کانہہ پروا۔ سو لو سکتھہ سردست تہن نشت تر وومت فَالْيَوْمَ نَسَبْنَاهُمْ كَمَا
 نَسَبُوا الْقَاءَ يَوْمَ هُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا يَلْبِغُونَ اس تہ مشر او کتہہ تم از کہ ڈوبہہ نارس منز واد ناوتھہ
 ہیونہ اس جہتہ ناوتہ اڈہ ہتھہ کتھہ کتھہ کھیاو تہ چاوتج۔ جہتہ پانچہ تھو مشر وومت اوس از کہ دہک ملاقات
 سمہ دہک سامانہ تیار نہ کرنہ سیت یہ جہتہ پانچہ آس تم سامین آیاتن انکار کران وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ
 فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ پز پانچہ آسہ واد ناوے یہ تہن نش بتاباہ یعنی قرآن

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۶﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي
تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵۷﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ قَفًّٰى يُعْشَى الْيَلِ

مجید۔ مجھ منظر پر وہ علمہ سان اُسے تمام چیزان ہمز وضاحت کرے یہ۔ تی کر یو اُسے بیان ساری لوکن
یو زمانہ خلیطہ۔ مگر سنو کتاب سہز ذریعہ ہدایت و رحمت تمہی لوکن ہمدہ خلیطہ ستمو سنو یو زتھہ پڑھہ کرتہ
ایمان اُون۔ سہو باوجود اتمام حجت پڑھہ کمر نہ تہ ایمان اُون نہ جہیدہ حالہ اندرہ ہتھو پر یڈان کہ ہَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ کہ تم جھندہ ہڈ اران مگر قرآن مجید اس منز بیان کرتہ آتھس
تہ وعدہ تھانہ آتھس وعید اس یعنی سزاس یقول الذين نسوه من قبل قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
سہمہ دوہندہ سو عذاب واقع سہز تک موقوفہ دلہ تہمہ دوہندہ ذہن تم لوکھہ ستمو یہ قیامتک دودہ مشرودمت اوس
مجبور و مضطر سہرت کہ واقعی سانس پروردگارہ سہز پیغمبر آئے ہڈہ تھہہ ہتھہ مگر اُسے لوگ نہ بوڈن قَهْل
لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا وڈن چھاسنا کانہہ سفارش کرہ وناہہ۔ اُسہ کرہ ہاسفارش شاہ سہمہ سیت اُس
نجات لہ ہو اُوْرَدُ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ تہ سہمہ ہو اُس واپس دُنیا س گن سوزنہ سہہ کرہ ہو اس
تہ رتہ عملہ سہمہ تمہن جھہ کامین ہڈل آسہن سہمہ اس برو تھہ کران آس دُنیا س اندرہ۔ اللہ تعالیٰ
ہتھو فرماوان کہ سہمہ تھہ کیدہ وون ہتھندہ تمہن کانہہ صور تھہہ نجاتک قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بیشک تموتراؤ
ہن پان مگر کرتہ سیت تا اُس تہ نقصا س اندر وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ کہیہ ضایع تہمہ سارے
اُپڑہ تھہہ سہمہ تم نوور لواوان آس کہ اُسہ کرن معبودان باطل شفاعت إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ پڑ پانہہ تھہندہ پروردگار چھو اللہ تعالیٰ ستم آسمان تہ زمین پیدہ

النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْحُورَاتٌ
 يَا مِرَّةَ آيَاتِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۷﴾ ادْعُوا
 رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵۸﴾ وَلَا تَفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

کرشمین ۶ دو نم برآمد تس منز نَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تو پت سہ مستوی عرش مجید س بیٹھ تمہ
 طریقہ نس جہدس ذات پائس شایان شان جھو یُعْطِي الْكَيْلَ التَّهْلُكُ سؤی پروردگار جھو راژہنزہ تاریکی سیت
 ولان دوپہ روشنی یَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ ژحانڈان جھو دوہ رائس ۲ رات دو نمس ذل ذل، دو شوے جھہ کھہ
 آکس پتہ یوان ۲ گدھان وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْحُورَاتٌ يَا مِرَّةَ بیہ کمر اللہ تعالیٰ آن پیدہ
 آفتاب ۲ ڈون بیہ باقی تازک سمہ طریقہ کہ ساری جھہ پنہ نس رفداس ۲ انوار آمان اندر تابع
 جہدس حکمس۔ جھہ پانہ سو پکہ ناو جھہ جھہ پانہ جھہ چان۔ نس تصرف تمن پیٹھ تران یڑھان جھو
 جھہ پیٹھ جھہ تم روزان آيَاتِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ڈارہ نو زد کہ پیدہ کزن جھہ
 خاص جہزی کوم۔ حکم کزن ۲ جھہ جہزی کوم۔ سینہا جہ خوبہ اول جھو اللہ تعالیٰ نس سارنی عالمین
 ہند پروردگار جھو۔ یلہ سو سینہا خوبی اول جھو توہہ پڑہ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ای لوگو کہ جھہ مگو پن ساری حاجت پر جھہ وقتہ پنہ نس پروردگار س عاجزی سان ۲، پو شیدہ
 پاٹ ۲۔ ہز پانہ سو جھو نہ ہند کران تمن سم ڈعاء ن ہند یو آدہو لہر حدہ ڈلان جھہ یعنی تی مگن یہ نہ
 شوہ بیہ تھہ پانہ مگن جھہ پانہ نہ شوہ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بیہ نہ مگو تابی
 ڈیاء س اندر بشر کہ سیت ۲ نافرمانیہ سیت جھہ اندر توحید و اطاعت سیت ۲ پیغمبرن ہندہ تبلیغ
 وار شادہ سیت آمن ولان قائم سہ نہ پتہ وادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا خدائس کھو ڈکھو ڈتہ جہدہ
 رنج امید تھاوت ۲ آسو کران نس دعاء نہ عبادت کرت ۲ مگوہ مفرور گدھن نہ

اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ
بُشْرًا لِّبَنِّ يَدَى رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ
كُلِّ الشَّجَرِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۱﴾
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ

گرمه تا امید سپدن کمازه **إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ** ہذا پانچہ خدایہ سز رحمت ہتھ
نزدیک نیکو کارن **وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا لِّبَنِّ يَدَى رَحْمَتِهِ** سو پروردگار گو سوی نس
باران رحمت تراوند برو تھہ ہتھو ہو اسوزان ہتھ سو بارشہ ہنز امید دتھہ لو کن ہبہ دل خوش کرہ **حَتَّىٰ إِذَا
أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ** تا اینکه بلکہ تم ہو اٹلان چہہ گوئین ابرن، پکناوان چمن اُس
سو ابر تھہ شرس کن نس آہ داوہ ہو کفمت آسان ہتھو۔ تو پتہ ہتھو سو ابر تھہ شرس پیٹہ زود تراوان۔
سو شہ ہتھو سر ہنز سپدان۔ تمہہ شہ کہہ مومہ زمینہ منزہ ہتھہ کل بہ گارہ کھسان۔ ای سیت ہتھو سپدان
ثابت سون کن آسن بہ قدر بہ دل آسن۔ یہ بہ سپہ ثابت کہہ اسپہ ہتھہ قدرت مرنہ پتہ یہ زندہ کرنس
پیٹہ **فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ** نس چہہ تراوان اُس تمہہ ابرہ منزہ زود۔ نس
چہہ اُس کڈان تمہہ زودہ سیت پر تھہ قسمک میوہ **كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** ہتھہ پانچہ
سپاہ کڈو کہہ اُس مردہ قبر و اندرہ زندہ کتر تھہ۔ اُس چہہ پیٹہ قدر تک آثار بیان کران۔ تاکہ چہہ کتر و سمن
تکھن اندر غور۔ تو پتہ کتر و پڑھہ مرنہ پتہ یہ زندہ سپد نس بہ قیاس۔ سون کلام پاک اوس پیٹہ جاپہ پر تھہ
کانسہ ہندہ خیطرہ کافی۔ یہ اوس مکان کہہ پر تھہ اکھ گرمہہ تو حیدور سالت بہ معادس پڑھہ کران۔ مگر اوہ
کیازہ ہجندہ ساری پڑھہ کران۔ تمیک وجہ ہتھو کہہ کانسہ ہتھو قابل آسان بہ کانسہ ناقابل آسان۔ ہتھہ
پانچہ زود ہتھو ساری زمینس پیٹہ ہوان مگر ساری زمینہ منزہ ہتھو نہ کنوی نتیجہ ہیران **وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ
يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا بُدًا** نس زمین رت ہتھو آسان تمیک پیداوار

لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نَصْرَفُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
 لَكُمْ مِنَ الْإِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۹﴾
 قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ
 لِقَوْمٍ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۱﴾
 أَبْلَغَكُمْ رِسَالَتِي ربي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۲﴾

ہٹو خدایہ سیدہ فضلہ سیت واریاہ تہ زٹوی نیر ان۔ نس زمین ہٹھ تہ خراب ہٹھو آسان تمہ منزہ ہٹھونہ
 نیر ان کینہہ تہ مگر خراب تہ ردی سہشاہ کم کذالک نصرف الایت لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ہٹھ پاتھ ہٹھہ اس
 پنہ دلیلہ ہٹھ ہٹھ واریہو طریقو بیان کران قدر دان لوکن ہٹھہ خیطرہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
 فَقَالَ لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْإِلَهِ غَيْرُهُ ہٹھنن اسہ سوز حضرت نوح تہ ہٹھہ ہٹھ نس قومس کن۔ نس
 فرمودہ ہٹھ پنہ نس قومس۔ اکی میانہ قومہ۔ ہٹھہ کمر و عبادت صرف معبود ہر حقہ سنہ۔ نس وراہ ہٹھونہ
 کانہ تہ ہٹھہہ خیطرہ معبود آس قابل۔ ہٹھن کہہ دین شکل ہٹھہ پر ستش کران ہٹھوہ۔ تمہ ہٹھہ روزو
 ہٹھہ۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ہر گاہے ہٹھہزی یا ژ عبادت کمر دمیہ ہٹھو اندیشہ
 ہٹھہہہ خیطرہ کہ ہٹھہ ماہو شو شر کہ تہ مت پرستی سبہ بڈہ ڈہٹس یعنی قیامت کس عذابس یا طوفانس مگر قار
 قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ونہ نس قومیک زٹھہ اکی نوح اسہ ہٹھو کھ ڈہ ہوزنہ
 یوان نہ گراہی تہ غلطی اندر ہٹھتا۔ کیا زہ ہٹھہ چھوہ توحید چ تعلیم کران۔ ہٹھہ ہٹھوہ ہٹھہ عذابس کھو ڈہ
 نادان قَالَ لِقَوْمٍ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حضرت نوحن دو ہٹھہ جواب
 اکی میانہ قومہ مہ ہٹھنہ کانہ گراہی تہ غلطی۔ لیکن چونکہ بو ہٹھس ہٹھہ ہٹھہ۔ رب العالمینہ سیدہ طرفہ تھی
 ہٹھوہ ہٹھم فرمودت أَبْلَغَكُمْ رِسَالَتِي ربي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بو ہٹھوس توہہ ہٹھہ
 پنہ نس پروردگارہ سند پیغامات و اتادان۔ ہٹھہ ہٹھوس بو ہٹھن فرض منصبی ادا کران۔ میہ ہٹھونہ اتھ اندر

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ
 لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۶﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ
 وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۱۷﴾ وَاللِّي عَادِ آخَاهُمْ هُودًا قَالَ
 يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۸﴾

کانسہ ذاتی غرضاً۔ یہ جنھوں نے توبہ کی خطرہ زت یسحاق۔ کیا زہ توحید پالنہ منہ پنھو تہجد وی فایده ۳۰
 نفع۔ یہ نرس توبہ بدو ذہبہ عذابک تجب پنھو سپدان یہ جہہ پنھن سخت غلطی کیا زہ بو پنھوس زمان تم
 چیز اللہ تعالیٰ اس بشر ہم نہ تہہ زمان پنھو۔ مہ پنھو خدا ین فرمودت کہ نرس خدا نرس شریک پنھو اوہ
 تسیرس ملوی آس پنھو کرہ نہ نس کرہ بو عذاب اَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ
 مِّنكُمْ کیا تہہ پنھو یہ تہہ عجیب زمان کہ توبہ پنھو واژ تہجدس پروردگار سہہ طرفہ توی اندرہ
 آس شخصہ سہہ ذریعہ وعظ و نصیحت تہہ۔ سو نصیحت تہہ گید تہہ کہ عبادت کر و معبود بر حق سنزی یاژ
 لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پنھو سو شخص توبہ خدایہ سہہ حکمہ ، تہجدہ عذابہ بشر ہم
 کرہ۔ یہ پنھو تہجدہ ہم کرہ سیت تہہ کھوژ۔ شرک و کفر و بشر پنھو زوزدیمہ سیت توبہ پنھو ہم ایہ کرہ
 فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِّ مگر ایہ فرمائش کر تہہ زون تمو حضرت نوح (نعوذ باللہ)
 اپز پور، بد ستور زود تم انکار کران۔ نس ڈیت اسہ حضرت نوحس یہ ہم تمن سیت ناوہ اندر کھت نجات
 طوفانہ عذابہ بشر وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ یہ پچانو اسہ طوفانہ کس
 عذابس اندر ہم لو کہہ سمولہ بز ان سان آیات۔ بیٹک آس تم امن ہنز جماعت تمن نہ خدایہ سہہ
 وحدانیتک نشانہ بوزے اسہ یوانا وَاللِّي عَادِ آخَاهُمْ هُودًا یہ سوزاسہ قوم عادس حضرت ہود علیہ
 السلام پنھو۔ نس تہجدہ برادری یا وطنی ٹوی لوس قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا
 تَتَّقُونَ تمو فرمود تمن ای میلہ قومہ عبادت کر و صرف مشہو بر حقس پنھو نہ توبہ کانسہ معبود نس

قَالَ الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ أَوْحَيْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَادُّكُرُوا ۖ وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۖ وَزَادَكُمْ

در ای۔ بت پرستی تراوی۔ کیا تمہے جزم عظیم شرک آتھہ ہجوہ ناچہ کھوڑان خدایہ سب سے غذاہس قال
 الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قوم۔
 کیوز ٹھیو ڈو پیگھ جو اب اسہ ہجوہ نو زند یوان جبہ کم عقل۔ جبہ ہجوہ اسہ توحید چ تعلیم کران۔ توحید
 پیگھ ہوان بہ غذاہس کھوڑہ ہوان۔ بیہ ہجوہ اس زمانہ جبہ ہجوہ آپز بہ خلاف واضح گھہ ونہ ونیو آند رہ۔
 یعنی (نعوذ باللہ) نہ ہجوہ توحید ک مسئلہ صحیح نہ ہجوہ خدایہ سبہ طرفہ غذاہگ نازل سہن صحیح قَالَ يَقَوْمِ
 لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ تمہو فرمؤ ہجوہ ای قوم میان عقلہ منزلیہ قسمہ کی ہجوہ وَ لَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ
 الْعَالَمِينَ لیکن یو ہجوہس پیغمبر توبہ سن پروردگار عالیہ سبہ طرف۔ تمی ہجوہس بو سوزمت توبہ
 توحید چ تعلیم کرنہ خیطرہ بیہ غذاہگ بیم کرنہ خیطرہ یو ہجوہس چن فرض منصبی آدا کران اُبَلِّغُكُمْ
 رِسَالَاتِ رَبِّي یو ہجوہس توبہ نبیہ واتاوان پروردگار سبہ پیغامات بہ احکام وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ
 تمہہ گھہ اندر ہجوہس یو جہد خیر خواہ، بے غرض بہ قابل الطمینان کپازہ توحید و ایمانس اندر ہجوہ یو
 فائدہ جہدی خیطرہ اَوْحَيْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ کیاہ جبہ ہجوہ
 بہ عجیب گھہ از زمانہ توبہ نبیہ کیاوا اثر و عطا و نصیحت گھہا جہدس پروردگار ہبہ طرفہ توبی آند رہ۔ جہدی
 جہدہ اس شخصہ سبہ ذریعہ۔ نس توبی نبیہ بشر بہ انسان ہجوہ۔ تمہہ سو شخص توبہ وارہ پاٹھہ خدایہ سبہ
 غذاہہ نبیہ بیم کرو۔ یہ ہجوہ کسمی گھہ توبہس بہ بشر تیس چھاپاند وان بچہہ اختلافہ وَاذْكُرُوا

فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ فَادْكُرُوا الْآءَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾
 قَالُوا أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ
 آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۱﴾
 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۗ
 أَتَّجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَيِّئَاتِهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا
 نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ

اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ اکی میاں قوم یہ پاپو توجہ تھیس کہ اللہ تعالیٰ ان کس احسان کور
 توجہ نسبت جہہ کر نوہ زٹھہ زمیں اندر قوم نوہ پتہ ۗ وَادَّكُرُوا فِي الْخَلْقِ بِبَصُطَةٍ یہ کور نوہ جہہ
 جسمہ کس ذول ڈالس اندر برثر۔ قوت ۛ طاقت کور نوہ عطا ۗ فَادْكُرُوا الْآءَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کس
 تھیس پاپو و خدیہ سزہ نمود تمسزہ نمود تھیس پاپو جہہ کرو جہز فرمانبر داری۔ دیوہ جہہ رستگار ۛ کامیاب
 سپد ۗ قَالُوا أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ جہہ لگ تم واہ کیاہ جہہ
 آوہ آسہ نشیہ سمہ تھہ خیطر ہیمہ اس کیاگز و کھسی خدائس عبادت۔ باقی یمن ہو تیلن ہنز عبادت سان مال
 پڈب کران آس تم کیا تر لوو کھ اس۔ اس ۛ گزونہ کینہہ ۗ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
 کس سانس نہ مانجس پڈٹھ سمہ عذابک جہہ آسہ بیم کران جھوہ سو عذاب واتا و آسہ نشیہ۔ ہر گاہ جہہ ہو زونہ
 ون جھوہ ۗ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ حضرت ہون فرمود کہ جہزہ
 سر کشی ہنز یلہ یہ حالت جہہ۔ تھیں دن سپد توجہ پڈٹھ جہدس پروردگارہ سپدہ طرفہ عذاب نازل یہ
 ہزاری اِتَّجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَيِّئَاتِهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ کیاہ
 جہہ جھوہ مہ بیت ہر ۛ قصیہ لاگان۔ کینون پاتھن ہندلن ناؤن پڈٹھ سم ناؤبے حقیقت جھہ پانے توجہ
 یا جہد ہو مایو پڈٹھ ہر اومت جہہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان جھنہ کانہہ ذلیلہ جہدہ معبود آخ نازل کر مڑ۔
 توجہ نشیہ نہ جھہ پنہ دعوئی اچ ذلیل۔ نہ جھو توجہ نشیہ میاں ذلیلہ ہند جواب۔ کس ہر ۛ قصیہ لاٹک کیاہ

الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۴۱﴾ فَأَجْبَدُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ
 قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۴۲﴾
 وَإِلَىٰ شِمُودَ إِخَاهُمْ ضَلِحًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
 لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
 هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي

فائدہ بخوبی۔ لہذا اگر وہ نہ قضاہ ختم فانتظرُوا لَآئِن مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ذلک ہاں رو بہ عذاب۔
 نو بہ بخوبی توحی سیت پیرہ ونیو آندرو۔ پس سوز اللہ تعالیٰ ان تمن پینہ تیز واوسم تم ساری گال
 فَأَجْبَدُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا پس دمت اسہ نجات حضرت ہودس علیہ السلام بیہ تمن
 ہم تم سیت آس با ایمانو آندرو پتہ رحمت سیت وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا
 مُؤْمِنِينَ یہ ٹٹ اسہ مول تمن لوگ ہمد ہمو آہر زان سان آیات بیہ آسہ تم بوجہ سخت قسوت قلبی
 ایمان نہ ونیو آندرو۔ ہلاک بیہ تم کوہہ من توہہ ان من نہ ایمان۔ لہذا اگر اسہ تم ممتنعائے حکمت تباہ و
 نہ باد وَإِلَىٰ شِمُودَ إِخَاهُمْ ضَلِحًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ یہ سوز اسہ قوم
 شمودس کن جہد نوی حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر، تمہو فرمود تمن اے قوم عبادت کرو فقط اللہ تعالیٰ
 سزئس درای بخوبی نہ توہہ کا نہ اکھاہ معبود آس قائل بیہ سزاوار۔ تمہو کور حضرت صالحس اکہ خاص
 مہجک در خواست۔ ذلکچہ ہمہ خاص پلہ منزہ گورہ اکہ والہ دن دو نشین نیرن۔ چنانچہ حضرت صالح
 سہہ دعایت سہہ جنو نہ در خواست منظور۔ سولک پھوٹ۔ تمہہ منزہ در لپہ اکہ چہ دارو و بیباہ
 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ یہ کیاہ بخوبی۔ اوٹن خدایہ سزہ۔
 یوسہ اسہ پلہ منزہ در لپہ تمہزہ خواہیہ موجب۔ یہ آہہ جہدہ خیطرہ اکہ بڈ ذلیباہ بناو تمہ ظاہر کرنہ۔ آہی
 آس ناڈ تھاونہ ناقۃ اللہ خدایہ سزہ وٹن کیاہہ۔ تمہہ جہزہ قدرتی بڈ دلیل میانہ پیغمبر آہیہ۔ تمہہ یہ
 بڈ دلیل لہذا چہہ توہہ ہنہہ آسیدہ حقوق بیہ قَدْ رُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَتَسَوَّاهَا بِمُؤ

أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵۱﴾
 وَادْكُرُوا الْإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ
 فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ
 الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا الْآلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿۵۲﴾ قَالَ الْهَلَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِيَنْ أَمِنْ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ ضُلْحًا

نہیں تر لایوں یہ، تمہارے بارہ یوں پھیر تمہیں کھارے۔ یہ بھل خدایہ سندس زمینس وٹھے۔ تھے پانچہ چھہ چہ
 وارہ ہبہہ ذہبہ تریش، خبر دار تھنہ اس اتھہ لاکو کاتھہ تکلیف اتاوتھہ خیطرہ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 تلہ رہہ توبہ خدایہ سُنڈر عذاب ہر گاہ تہہ اس کھینس چہیس منز مزامت کردیا تکلیف اتاوتھہ وَاذْكُرُوا
 اذْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ ہہہ پادو جہہ ڈٹٹس سُوووقت سمہ وقتہ اللہ تعالیٰ ان توبہ زمینس وٹھے
 ہہہ کب خلیفہ بناو کوہ قوم عاڈس ہہہ۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا ہہہ
 ہر نوہ جہہ آباد زمین پینہ سمہ طریقہ کہ تہہ ہجورہ بناوان پاتھلس، میدانی زمینس پینہ جہہ جہہ کرہ ہہہ مند
 ورہ۔ تمن منز ہجورہ ہسان ریتہ کاس وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ہہہ ہجورہ کوئمن پینہ ہہہ گورگور کرہ ہہہ
 ٹھہہ بناوان تمن منز ہجورہ روزان وندس فَاذْكُرُوا الْآلَاءَ اللَّهِ نہیں ڈٹٹس پادو خدایہ سزہ ہجورہ وَلَا
 تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شر کہ ہہہ مگرہ سیتہ آسوتہ بادی کرہ دن زمینس اندر قَالَ الْهَلَّا الَّذِينَ
 اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ڈپنہ گب زٹھہ زٹھہ لوکھ ہجورہ قومہ اندرہ سمو ہجورہ گور ایمان انہ ٹھہہ
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِيَنْ أَمِنْ مِنْهُمْ تمن لوکن سمو تمنو منزہ غریب ہہہ کزور آتھہ ایمان اوس
 اوتھت اتعلون ان ضلحا سُرسل کیا جہہ ہجورہ یقین کران ہہہ زانان ہہہ حضرت صالح ہجورہ ہجورہ قون
 ڈٹٹہ ہہہ بس خدایہ سبہ طرفہ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ سمو روکھہ وقعی اس ہجورہ ہجورہ ساری
 یہ ہتھہ تم سوزنہ آی پوزہ پڑھ کرہ دن قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنُكُمْ

مُرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ط قَالَ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۷﴾
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ
 كَفِرُونَ ﴿۸﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْنَا عَنْ آمُرِ رَبِّهِمْ وَ
 قَالَُوا يُضِلُّهُمُ اسْتِنَابُنَا تَعِدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۹﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
 جِثِيمِينَ ﴿۱۰﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

یہ کفرانوں میں بھیجے دو دیکھ اس بھڑانکار کران تھے تھے توہم پر کفر کر رہے۔ غرض تمہوں نے کفر پر
 حضرت صالح نے کہ وہ تینے ہند خنوق پورہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ چنانچہ سو دو تین مار تمہوں نے کفر
 وَعَتَوْنَا عَنْ آمُرِ رَبِّهِمْ یہ کہہ کر کئی پتہ بس پروردگارہ سند حکم مانہ لہیہ وَقَالَُوا يُضِلُّهُمُ اسْتِنَابُنَا
 بِمَا تَعِدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تو پتہ لگ بکمال بے باکی تہ بے پروائی تہیہ اکی صالح
 اتا دو اسے بس سو غذا اب ہمیک تہ اسے ہم کران آسودہ، تہ اسے کھوڑہ نادان آسودہ تھوے تہ پڑپاٹ
 فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ تہس رٹ تہ سخت ہٹل۔
 بیس آسے کر تہس منز تھو فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تہس رٹ تہ سخت کر تہجہ۔ لہذا تہس تہن دو تہوے۔
 آسہ تہ طرف تھو سخت کر تہ زبردست کر تہ پتہ آکھ بو تہل۔ تہس پے تہ تہ کن دتہ پتہ تہن گرن
 اُتْرُ زَمِينٍ سِنِيَّةٍ (پھر تہ گوتہ تہود) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِي رَبِّي
 وَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ تہ قوم تہود غذا تہ سیت تہ تہا گو۔ حضرت صالح در او تہن
 لہیہ تو پتہ فر سو تھو ای مہا تہ قوم تہ تہن تہ و اتا دو تہ توہم لہیہ پتہ تہس پروردگارہ سند پیغام تہ تہ عمل
 کرنہ سیت توہم بڈ کامیابی سہ تہا۔ تہ کرے تہ تہ توہم نصیحت تہ خیر خواہی کہہ کہہ طریقہ تہا یو تہو
 توہم تہرہ، لیکن افسوس کہ تہ آسودہ تہ تہن خیر خواہن تہ نصیحت کرہ تہن تہدی کران۔ دغظ تہ
 نصیحت یو زن اوس توہم کھران۔ لہذا تہ توہم تہن تہو تہ، میانین تہ تہ عمل کرہ تہ تہوے گوہ

رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٤٩﴾
 وَلَوْ طَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
 بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
 شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٥١﴾
 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
 مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

عذائس گرفتار۔ یہ فرمود تمہیں حضرت صالحین جہدہ ہلاک گروہند پتہ۔ تم زندہ تصور کرتے ہو بلکہ ہلاک ہو کر
 تھے پانچ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود بد زہ کین کافر ن ہلاک گروہند۔ اسی اندرہ اوس
 عرض میں لو کن یعنی پتہ ادہ وٹمن یہ کتہہ داتاؤن کتہہ لو کن پزہ مخلص خیر خواہن ہنز کتہہ ضرور مان۔ ہم
 لو کہ پتہ نس معتبر خیر خواہہ سز نصیحت مانان آسن نہ تہن سیت بہ سپدہ سئی متعالہ نس قوم نمودس
 سیت ہند۔ (العیاذ باللہ یا الہی نجات) وَلَوْ طَإِذْ ہر سوزا سہ حضرت لو ط کینون بسین کن پیغمبر اذْ قَالَ
 لِقَوْمِهِ ہر تمہو فرمود پتہ نس قومس یعنی انس اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کیا ہجہ ہجہ ہ سو پتہ قوم کران
 مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ یوس نہ توہر بردتہ کر مو پتہ کانسہ اک شخصن عالیو اندرہ
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ہر پات ہجہ ہجہ ہ ہن شہوت بہ خواہش پورہ کرنہ
 خیطرہ زمانہ تراوت مردن لہر یوان ہجہ ہ سو پتہ قوم یوس نہ توہر بردتہ کانسہ کر مڑ ہجہ۔ یہ پتہ
 قوم کر نس اندرہ ہجہ نہ توہر کتہہ قسمک دھوکہ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ہجہ ہجہ ہجہ اتہ اندر انسانیت کتہہ
 حذہ لہر سینہاہ اول دن وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ ۗ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
 إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ہجہ قومس دون نہ تہن اتہ کتہہ کانسہ معقول جواہا۔ مگر پاند وان لک دنہ
 ہم (یعنی حضرت لو ط تہ ہجہ جماعت) کڈ یو کہ پتہ شہرہ منزہ ہم لو کہ چہ سینہاہ شہوت ہم ہجہ پاک
 و صاف روزن یٹھان۔ اسی ہجہ ہم زانان گندہ لو کہ۔ لہذا صاف و پاک لو کن کتہہ پزہ گندہ بہ ناصاف

وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۱۴﴾ وَأَمْطَرْنَا
 عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۵﴾
 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
 مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ
 رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

لوکن سیت روزن۔ یہ آس ومان تم ٹھنڈے پانی سے لسنے پانی سے پینے پلے واڑ کوئی نہ آسہ کور نازل آتھ
 قومس پینے عذاب فَأَنْظَرَكَيْفَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کس دیت آسہ نجات تمہ
 عذاب نہیہ حضرت کو طس یہ جہنم میں متعلقن، اہل و عیال کس یہ با ایمان مگر نہ جہنم آسہ سو روز ایمان نہ
 آسہ موکھ ٹھنڈے قومس سیت سمن پینے عذاب نازل سہد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرَكَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ آسہ تر دو تم پینے ہڈے قسک زودا۔ یعنی کس تر لو کس رو دک پانی کس وچہ ترہ
 اکی وچہ وینہ کہ کیا سہ انجام تم نافرمان ہند۔ گر غورہ سان وچہ کس کس کس یہ تری کس و وار کس
 خدایہ سزہ نافرمانی ہند انجام کیا وچہ آسان وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
 مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ یہ سو ز آسہ شہر مدین کین لوکن کن جہنم یوی حضرت شعیب پیغمبر۔ تمہ
 فر مو پنے کس قومس اکی میانہ قومہ عبادت کر وچہ فقط مشہود بر حقہ سزہ، کیا زہ وچہ نہ توہہ کا نہ معبود
 آسہ وراہی قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ تَحْقِيقَ وَآذِ تَوْبِهِ نَهِيَهُنَّ دَلِيلَ مِيَانِسَ پیغمبر آسہ پینے
 جہنم کس پروردگارہ سہدہ طرفہ۔ لہذا ماہو اکام شرعیں منز میان کسہ بہ مین ورن فَأَوْفُوا الْكَيْلَ
 وَالْمِيزَانَ نو بچسودہ ومان کہ جہ آسہ ہار ہار میانہ ہار ہار تولان وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
 یہ نہ آسہ لوکن ہندین چیزن اندر نقصان نہ کی کران، چھو نہ دلوان۔ کس پانی توہہ عادت وچہ
 وَا لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا یہ نہ کرو زمینس اندر شر کہ نہ کفرہ سیت، یہ لوکن

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾ وَلَا تَقْعُدُوا
بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ
قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا

چھون نہ ناقص کند سیت تہای نہ بر بادی۔ آتھ ز میس اندر حضرت انبیاء انہد واسطہ توحیدہ سیت ،
حقوق العباد اندر۔ تونس نہ میس منز۔ عدل و انصاف کرنے سیت اصلاح درستی سپہ نہ پتہ ذلککم
خیر لکم ان کنتم مؤمنین یہ بودمان بخشودہ یہ بخو جنہدہ خیطرہ سیشاہ جان نہ بہتر دنیاہ اس
اندر نہ نہ آخرتس اندر نہ۔ ہر گاہ جبہ میانس و نہ نس پڑھ کر وہ تمہ موجب عمل کرو۔ وَلَا تَقْعُدُوا
بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا یہ نہ
آبو وئن نہ سزگن پیٹھ بہان لوکن خوف دہی کر نہ خیطرہ۔ یہ ہم خدائس پڑھ کر ہون بہتہ تم جنزہ و تہ
نہ بہتہ رنہ خیطرہ۔ یہ خدایہ سزہ و تہ اندر گنہ نہ غلبہ طریقہ ، تجر ، خرابی نہ ٹک و خپہ پیدہ کر نہ خیطرہ
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ یہ پاو و جبہ ڈیس پنن حال یلہ جبہ تعدادس یا مال و
ڈولتس منز کم آہو۔ نس کر وہ خد لکن مہربانی جبہ س تعدادس اندر یا مال و ڈولتس اندر کر کوہ زیادتی
وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ یہ و بہتہ مفسدین سمو گنر و نا فرمانی سیت تہای کر
جبہ انجام کیاہ سپہ چولا کہ سمو خدائس نہ جبہ س پننبرین انکار کور توہہ بردنٹھ۔ قوم کوح قوم عا و شمود
و غیرہ تم بہتہ پانٹھ بہتہ اللہ تعالیٰ ان گالت نہ تہاہ کرت۔ تہتہ پانٹھ بہتہ اندیشہ کہ توہہ پیٹھ نہ ماسپہ و خدایہ
سبہ طرفہ عذاب نازل وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ
لَّمْ يُؤْمِنُوا وون ہر گاہ توہہ زہ جما ڈگوشن۔ آکھ جماعت انہ ایمان تہہ یہ نو بیتہ آس بیاکھ جماعت

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۱﴾
 قَالَ الْمَلَائِكَةُ أَسْتَكْبِرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
 يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْلَعْتَهُمْ فِي بَلِيَّتِنَا
 قَالَ أَوْلَاؤُكُمْ كَاهِنِينَ ﴿۸۲﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّا
 فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ ذُنُوبِنَا إِلهٌ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ

کرمہ تھے پڑھ۔ یعنی حضرت طور کو وہ جبہ ساری تھی پڑھ یہ بوجہ تھے اس قاصدوں کا حتیٰ یحکم
 اللہ بیننا وهو خیر الحاکمین اس ظہر دیوتان پانہ اللہ تعالیٰ اسے منرفصلہ کرے۔ پزیرین دیر
 نجات پزیرین کرہ ہلاک = تباہ عذابہ سیت۔ سوی پنھوزت حکم کرہون۔ قَالَ الْمَلَائِكَةُ
 اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْلَعْتَهُمْ فِي بَلِيَّتِنَا
 کیونکہ تھیو، سمو پنھ کور ایمان آنہ لہیہ، سمو پلہ چند کلام نوز، تم لگ رہیہ اکی شعیب یاد تھوزہ اس
 کڈو تھہ ڈوہیہ سمو ڈیہ پڑھہ کری پندہ شرہ آندہ۔ تے جبہ وانہس ہیر سانس دینس کن پھیرو۔ قَالَ أَوْلَاؤُكُمْ
 کڑھین حضرت شعیب فر موکھ کیاہ ہر گاہ اس تھہہہ دینہ لہیہ، ناخوش صفر، = ہزارہ آسو توہیہ
 ہجہہ جبہ یرحان سون تھہ دینس کن پھیرون۔ = ہیکہ نہ ہتھہ زانہہ کیاہہ اسہ لہیہ پنھہ پوختہ دلیل تھہہ دین
 باطل آس پیہہ = سون دین حق = ہاز آس پیہہ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّا
 بَعْدَ ذُنُوبِنَا إِلهٌ مِنْهَا ہر گاہ بالفرض اس تھہہہ دینس کن پھیرو پنھہ صور اس منرف نور و اس خد اس
 پیہہ بوجہ لہہ، کیاہہ باطل دینس ہازونہ سکتی پنھہ لازم ہوان خد اس پیہہ افتراء = لہہ نور لان و کن پنھہ
 کھسی تھہ منرفہہ داخل سہن۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ ان اسہ تھہہ باطل دینہ لہیہ نجات دیت و ما یكون
 لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا سان تھہہہ نہ ہتھہہہ زانہہ کہ اس کیا پھیرو دینس
 کن مگرے اللہ تعالیٰ اکی رھہہ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا واتھہ پنھہ سون پروردگار پر تھہہ چیزس

تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا يَا حَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
 الْفَاتِحِينَ ﴿۹۹﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ
 شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا الْخٰسِرُونَ ﴿۱۰۰﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
 فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿۱۰۱﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَخِفُوا
 فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿۱۰۲﴾ فَتَوَلَّى
 عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

علمہ سیت۔ تمس بھٹھ پر بھٹھ چیز چار خبر علی اللہ تو کھلنا خدا یہ کسی پیشہ کور اسہ تو کل۔ تمس بھٹھ
 مکان اس ربنا افتم بیننا و بین قومنا یا حقی و انت خیر الفاتحین اکی سانہ پروردگارہ نیای انور او
 اسہ سہ سانس قومس منز۔ ڈی بھٹھ ک زت فیصلہ کر ہون۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
 دوپ جہند یوز ٹھینہ سمو انکار کور جہندہ قومہ اندرہ تمن کافر ان کن۔ مٹھنہ تمن حضرت شعیبہ سیدہ موثر
 تقر یہ سیت کینہہ اثر سپدہ لہن اتبعتم شعیبًا انکم اذ الخیرون ہر گاہ جہ حضرت شعیبین پیروی
 کرو پز پات طلہ سپد جہ نقصان تلمہ و نیو اندرہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ تمس
 رٹ تم سخت نکل سمہ سیت سپد تم گرن اندر پھر سیت بھٹھ کن و ک پتہ نردہ۔ تمس پٹس لاس سوگو
 تھنھی زور تھہ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَخِفُوا فِيهَا سمو اوز زاتھہ انکار کور حضرت شعیبس، و ان نہ
 تم روزانی آس تھہ شرس اندر۔ تم آس دیان با ایمان آس کڈودہ سمہ شہرہ اندرہ۔ تم سپد پانہ ناود
 الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ سمو اوز زاتھہ انکار کور حضرت شعیبس۔ تے آس تاوان
 زڈو اندرہ۔ تم آس و نان با ایمان تو بہر سپدہ نقصان پر بھٹھ رنگہ تمنی سپد پانس سخت نقصان نہ تاوان
 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ تمس
 دراؤ تمن نہیہ حضرت شعیب علیہ السلام تو پتہ فرموان تمن کن افسوس کر تھہ زن تم زندے آس،
 اکی قوم تھنھن مہ و اتاو تو بہر پنہ تمس پروردگارہ سند پیغامات، بہیہ کر مہ تو بہر نصیحت، اوان تھہ پانہ کھمہ

فَكَيْفَ اتَّيَّ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۱۳﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ
 إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿۱۴﴾
 ثُمَّ بَدَلْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَّوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ
 آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾
 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ
 مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا

نوع کافر کو کن ہدس ہلاک کو جس پیٹھ۔ پٹھ دوو کہ تیٹھ کوٹھ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا
 أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ یہ سوزہ اسیہ تم شرن کن ہم ذکر کرنہ آئے،
 بیہ بیو شمر و اندرہ علیہ شرس کن، کانہ پیٹھ براہ، سوزہ آو مگر یہ کیو نہیں والیہ علیہ کس پیٹھ سوزہ فرمائی
 کر، اسیہ کر بیٹا تم نکلی۔ بیماری سیت، پٹھ تم ہا فرمائی نہیں ہا پیٹھ، عاجزی سان اسیہ کن رجوع۔ تو یہ
 کرن، ہا فرمائی کرنہ نہیں پٹھ روزن ثُمَّ بَدَلْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَّوْا علیہ تم ہا فرمائی نہیں
 حیوت کر تھ۔ باز آئی نہ تو پتہ ہد لو و اسیہ تم نکلی ہنزہ جلیہ آسانی، یو تان تم دولت۔ صحبت بیہ
 لولادن منز خوف ترقی سہز۔ سہز ڈریا تھ واریا ہ نوے یہ۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ غلط فہمی
 سببہ لگ تمہ سائہ و نہ پتہ نکلی۔ آسانی پٹھ علیہ ہا فرمائی یا فرما ہداری ہند نتیجہ۔ ہم چیز پٹھ ہر و پٹھ پیٹھ
 آست پٹھ پٹھ سائین مالین ہد نہیں۔ آس علیہ وقت نکلی آسان علیہ وقت آسانی ورنہ اس پٹھ ہا فرمائی ہد ستور
 کر ان کوش حالی کیا زہ اسیہ ہا علیہ اسیہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ نہیں رٹ اسیہ تم پٹھ۔
 مٹھ۔ تم آئی نہ پٹھ غدا پٹھ شیخ اسیہ رٹ تم محض جہدہ مکرہ۔ ہا فرمائی سببہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا
 وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ورنہ ہر گاہ تم شرن۔ لیکن ہد کو کہ خدا جس
 ایمان لکھ۔ پٹھ کر تھ پیٹھ برن ہنزہ و مخالفت نہیں پٹھ روزہ نہیں۔ پر ہیز گاری ہنزہ و تھ اختیار کرہ نہیں علیہ
 مو رلوہ ہو اسیہ تم پیٹھ آسمان و زمین جن بر کن ہند روزہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۱﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۹۲﴾ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ
يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۳﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۴﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ
لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ
أَصْبَنَهُمُ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَمَا لَيَسْمَعُونَ ﴿۹۵﴾

يَكْسِبُونَ لیکن تمہوڑوں سون پیغمبر لہذا، تسز کر کہ مخالفت نہس رٹ اسہ تم جہز و سہو پچھہ عملوسہہ
افامن اهل القرای ان یاتہمہم باسنا بیاتاً و ہم نایمون کیا من شرن ہند لو کہ یم توہم انکار
کر ان نہ لغوڈ باللہ از یور زمان ہجہ تم چہاے فخر نہ سوکے سمہ تمہہ لہجہ کہ تم کی اولاد سون عذاب ہجہ
نہ مچھہ رات منزی سمہ ساتہ تم شوکھہ آسن آوامن اهل القرای ان یاتہمہم باسنا ضحی
وہم یلعبون کیا من شرن ہند لو کہ چہاے فخر نہ سوکے سمہ تمہہ لہجہ کہ سون عذاب کیا ہجہ واتھہ
تمن لہجہ کا جہہ وقتہ سمہ ساتہ سم گندس بیت آسن مشمول آفامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ
إلا القوم الخسرون خدیہ سزہ آزما لہجہ لہجہ روزن نہ سوکھس منز مگر تمہے لو کہ سم دون عالمن ہند
تاوان زد آسن۔ اولم یهدی للذین یرثون الأرض من بعد أهلها کیا سموند کورہ واقعاتو
ہاؤ ناؤ تمہہ تمن لو کن سم سمہ زینک وارث نہیت ہجہ آمد کہن برو تمہین لو کن ہندہ گلہ نہ پتہ یعنی یم
موجودہ و قس منز اتھہ زینس پیٹہ بسان ہجہ تو پتہ ہجہ خداوندی احکامن ہنز نا فرمائی کر ان کہہ ان
لو نشاء اصبنہم بذنوبہم و نطبع علی قلوبہم فہم لایسمعون کہ ہر گاہ آس پڑھو آس کرو کہ سم نہ
گر قار عذائس نا فرمائی کر نہ سہہ برو تمہین نا فرمان امتن ہند پاتھہ۔ واقعی آس سم تمہہ واقعات سمو بیت
بہرہ ہا تمن عبرت رن نہ سبق حاصل کرن۔ مگر اسہ ہجہ سہر کر مڑ جہدین دن پیٹہ نہس ہجہنہ ہیکان تم
بور تھے پڑتھہ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقِصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا سُنَّ ذُو رُحَيْمٍ سُنَّ شَرِّن ہند کیہہ مختصر قصہ

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا مِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝۱۱ وَمَا وَجَدْنَا
إِلَّا كَثِيرًا مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدُوا وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ۝۱۲
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَطَلَبُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝۱۳

جہہ اس بیان کران توہہ یارسول اللہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق آئی تین سارنی
نہی جہہ پیغمبر نبیجات تہ نبرہ دلیلہ ہیت مگر جہدہ شرارتج تہ ہنت دھری ہنز کیفیت آس کہ
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا مِنْ قَبْلُ نہس لان تہ تموا ایمان تہ تہ تہ تموا انکار کورنت لاس گوڑہ
آسہ بروتھہ۔ بلکہ رو دتھہ انکار س پیٹہ بدستور كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ تہ تہ پاتھ کیا
تھو اللہ تعالیٰ کافر ن ہندین وکن پیٹہ نہر کران۔ جہد دل خیرہ نہہ بند کران۔ تموا منزہ بعضی لوکھ آس
مضہیہ ہمہ وقتہ عمد کران ہر گاہ یہ مضہیت آسہ نہہ دور گوڑہ اس لوائیمان وَمَا وَجَدْنَا إِلَّا كَثِيرًا مِنْ
عَاهَدُوا وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ مگر آسہ لوب نہ تموا اندرہ اکثر ن منزہ ہمہک کانسہ پاس۔
تھنی مضہیت دور گوڑہ تھہ آس تمہیہ بدستور نافرمانی کران۔ تموا اندرہ اکثر آس نافرمان تہ فاسق تھہ
بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَطَلَبُوا بِهَا تو پتہ سوز آسہ نمن پیغمبر ن پتہ۔
پہنر ذکر سہہ بروتھہ سہر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہن آیات ہتھ فرعونس تہ ہہ جہدین وزہر ن
آمیر ن گن جہدہ ہدایت وعلیفہ خیرہ۔ نہس کور تموا تھہ انکار تین آیاتن فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ نہس دتھو کیاہ تھہ انجام سپد تھن مضہدن ہند وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ ان فر موو خدایہ سہدہ حکمہ فرعونس لہہ گوڑہت۔ اکی فرعون بیٹک
توہ تھوس رب العالمین سہدہ طرفہ توہہ لوکن گن پیغمبر مقرر کر نہ آنت جہدہ ہدایہ خیرہ حَقِيقًا عَلَىٰ

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۳﴾
 حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ
 مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۴﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ
 بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۵﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ
 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۱۶﴾ وَنَزَعْنَا لَهُ فِئَاذَهُ فَاذَا هِيَ بَيْضَاءُ
 لِلنَّظِيرِينَ ﴿۱۷﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ

آن لَأَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ میںون شان نبوت بخشو ای کہ یو لاگہ نہ خدا ئس من کا نہ کتھاہ پڑوہ تھہ
 وراہی۔ یو بخشو نہ خالی پیغمبر آسک دعویٰ نبوت کران۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ بلکہ بخشو یو توہہ من تھہدس پروردگارہ سندہ طرفہ نہہ دلیلہ نہ ہڈ مجزہ ہتھہ آنت سم
 مجزہ توہہ ہوقت طلب ہاوجہ نہ ہتھہ۔ دون بلکہ یوقیناً پیغمبر بخشو یہ کیوہاہ یو توہہ ونودہ ہہ ماہو۔ تھہ پیٹھہ
 کرد عمل۔ تمو چیز واندرہ بخشو کھہ چیز کہ آزادو کرن ژہ میںون قوم بنی اسرائیل غلامی لہہ۔ تم تر لوکھہ تم
 سمکھہ یو پانس سیت ملک شامس من ئس ہوندا اصلی وطن بخشو قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فرعون ذاکہ ہر گاہ توہہ لہہ بخشو کا نہ نشانہ خداہ سندہ طرفہ تھہدس پیغمبر
 آسکس پیٹھہ، سوکر و پیش، ہر گاہ جہہ یوزونہ ونو اندرہ ہتھوہہ۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ اٹی
 ترودت موہن عصا ز میلس پیٹھہ تھہ جیوہہ نہ مہہ اکھ یو ڈاژدھا اکھ دارہ کارہ وَنَزَعْنَا لَهُ فِئَاذَهُ فَاذَا هِيَ
 بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ دوہم مجزہ ہوڈاکہ یہ کہہ اتھہ بنن ئس نالہ کن کھوہس تل تھاو تھہ اوسکھہ سوی کوڈاکہ
 تھہ۔ اٹی آوسو سارنی لوکن سم و چھان آس، نہ نہ کہہ دن یوزونہ۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ
 هَذَا السَّحَرُ عَلَيْكُمْ فرعونہ سندہ قومہ منزہ سم تھہدس ہمشین نہ دربار آس تم لک پاند وان دنہ کہ ہڈ پانہ
 یہ (یعنی حضرت موسیٰ) بخشو یو ڈازان اول جاڈو گراہ یُرِيدُ أَنْ يُنْفِرَ بِكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ قَبَاذًا تَأْمُرُونَ
 یہ بخشو واقعی پڑھان پنجہ جاڈو کہ زورہ سیت، توہہ سمہ شرہ منزہ کڈن۔ لہذا کیاہ

عَلَيْهِمْ^(۱۹) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ^(۲۰)
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ^(۲۱) يَا تُوَكَّ
 بِكُلِّ سِحْرِ عَلَيْهِمْ^(۲۲) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا
 إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ^(۲۳) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ^(۲۴)
 قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ^(۲۵)
 قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ

بمخو جہد مشورہ قَالُوا دہن لگ تم فرعون سے زخم زخم ہمشین فرعونس آرجہ وَاخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اکی فرعون ژہ وہ کہینہ کالاه ٹہلت حضرت موسیٰ اس یہ جہدس باہس حضرت ہاروس، تیس کالس سوژک ژہ مختلف شہرن کن ملازم ہن، پرستہ طرفہ کین بڈین بڈین جادوگرن سو نہراونہ نہ جمع کرنہ خیطر يَا تُوَكَّ بِكُلِّ سِحْرِ عَلَيْهِمْ تے ملازم دے ڈتھہ ساری مملکت ساری زمان وال جادوگر۔ چنانچہ اتھ مشورس پیٹھ سہد اتفاق توپتہ آئے سو نہراونہ اتھ انہ جادوگر۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ توپتہ یلہ ہم جادوگر وات فرعونس نعبہ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ دہن لگ فرعونس ہر گاہ اس غالب سہد تلہ آسہ سانبہ خیطرہ نوڈانعامہ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرعونس دوپکک انعام گو آتھی تمہ علاوہ بیہ ٹہد میانو مقربو مقربو مقرر کرنہ۔ توپتہ یلہ دو سختہ ساجرا سہہ طرفہ، حضرت موسیٰ یہ حضرت ہارون یہ طرفہ مید اس لہد ر مقابلہ کرنہ خیطرہ سہیای، لوک تماشہ گیرتہ آی بے شمار قَالُوا يَمُوسَى ساجردو پ حضرت موسیٰ اس اکی موسیٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ یا تراود گوڈہ ہن عصایا تراود اس گوڈہ پتہ لورہ نہ رزہ قَالَ أَلْقُوا حضرت موسیٰ ان دوپکک ٹھی تراود گوڈہ کیاہ، ٹھوہ ترلون فَلَمَّا أَلْقَوْا نَسِ يَلِيَهُ تَمُوسَى گوڈہ تراود لورہ نہ رزہ پتہ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ سحر کور تمہو لوکن ہنزن اچھن تہن آسہ تمہ لورہ نہ رزہ بوزنہ پرستہ طرفہ سرفے سرف۔ نہ کر تمہو نظر بندی تھی سیت کھوڑہ ناوکھ لوکھ وَجَاءَ دُيُوشَعْرُ عَلَيْهِمْ

وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَزِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فغلبوا هُنَاكَ وَانْقَلَبُوا صَٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَ
أَلْقَى السَّحْرَةَ سَٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ امْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ
أَذِّنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا الْكُفْرُ كَثُبُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا
أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

تم پند گمانہ بود وجود او بہ بحراہ بیتہ و اوحینا الی موسیٰ کہ القى عصاک اسہ بہ سوزومی حضرت موسیٰ
اس کن کبر جہہ بہ تراود حضرت بن عصا ز میس پونہ چنانچہ بیان تم سونہن عصا پتر تراود و اذہی تلقف
مایا فکون تان ہنو و تہ بود اثر دہا۔ ہم ہنہ کن ہیوت ساہرن ہند سوزوی بحر بہ جود۔ فوقع الحق
و بطل ما کانوا یعملون کس سہ ظاہر ہوز۔ یہ سہ باطل سو سوزوی جود کس تم کو رمت لاس
فغلبوا ہنالك و انقلبوا صغیرین پس مغلوب سہت ہیوت فرعون بہ جہہ قومن تمہ وقتہ واپس
رکن ذیل در سوا کرحت و القى السحرۃ ساجدین تراونہ آی جادوگر سجدس قالوا تمو ہتوبہ ہذہ
و ان امنا بر رب العالمین اسہ کر پڑھ سارنی جان ہندس پان واپس رب موسیٰ و ہارون کس
حضرت موسیٰ بہ حضرت ہارونہ سند بہ رب بخو قال فرعون فرعون کھوڑ خبر چھاساری رعایا
ما کرن حضرت موسیٰ سندی دین قبول۔ سولوگ ساہرن دپہ امنتم بہ قبل ان اذن لکم اکی
ساہر و گیاه میانہ اجازتہ و رای اونوہ توبہ ایمان حضرت موسیٰ اس ان ہذا الکفر کثبوہ فی المدینۃ
لیخرجوا منها اہلہا سوف تعلمون پڑپاٹ بہ ہنہ اکھ چالاہ لوسہ جہہ پانہ وان مکتہ چلاوہ

مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۳﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
 مُنْقَلِبُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا
 جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفِرْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّانَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَقَالَ
 الْهَلَاكُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُكَ وَالْهَتَّكَ ط قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ
 وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۱۳۶﴾ قَالَ مُوسَىٰ

بیتھ شرس اندر کھنڈے۔ شرہ منزہ ایک لو کہ کڈ تھہ تھہ کھ۔ دون سپدہ توبہ معلوم توبہ کیاہ پھر اوہ نو
 لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ بوشہہ ضرور توبہ کہ طرک
 آتھ، بیہ طرک کور۔ تو پتہ دمووہ پھہہ تہہ ساری قَالُوا جاؤ گروہم با ایمان اس سپدہ پورہ
 پاتھ دوئس کانسہ پروا پھون۔ اس گھونہ مر تھہ تھہ خراب جایہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بلکہ وائو
 اس پنہ نس بدور دگار س لہیہ۔ بتہ آسہ امن و راحت واتہ وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا
 لَمَّا جَاءَتْنَا تھہ پھو کھنڈے آسہ اندر کانسہ تصور تہ عیباہ لبان مگر تہ ہے کہ آسہ کیاہ کر پڑھ پنہ نس خدایہ
 سندین اذکاشن بلہ آسہ لہیہ تم نشان واتہ۔ یہ پھونہ کانسہ عیباہ نہ کانسہ تہ ماہ رَبَّنَا أَفِرْغُ عَلَيْنَا صَبْرًا
 وَتَوَقَّانَا مُسْلِمِينَ اکی سانہ پروردگار آسہ منز تر لو تھہ سٹھاہ صبر کھ آس فرعون سند تکلیف برداشت
 کر تھہ پھو۔ یہ مار تھہ آسہ مسلمان۔ فرعونے آسہ پیچہ تھہ گریہ تھہ نہ آس پریشان سپدہ۔ تھہ نہ سانس
 ایمانس منز کینہہ ظلل واقع سپدہ وَقَالَ الْهَلَاكُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُكَ وَالْهَتَّكَ تھہ بلہ حضرت موسیٰ سندہ نوڈ تھہہ لو کو اچھ کہہ سارہ واتہ کون ایمان
 بعضی لوک تہ سپدہ تمن سیت لھن۔ حمہ وقتہ وان فرعونس پنہ قومہ کیوز تھہو ای فرعون عیباہ تھہ تراویہ
 بیہ حضرت موسیٰ تہ تھہ قوم تھہ تم تہای تہ تہ بادی تھن تھہ ملکنس اندر یہ تراوان چان پر تھش تہ
 چائن معبودن ہنز پر تھش کران۔ قَالَ سَنُقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ

لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ
يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۸﴾
قَالُوا أَوْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ

فِرْعَوْنَ فرعون ڈو بھہ باہر دمنہ تھہ اسی مارو کھہ یہ تھہ پتو تھہ تھہ زور زیادہ بیجہ سپد تھہ زندہ تھا
دو کھ زمانہ جنزہ۔ کیا زہ زمانہ ہمد بھونہ کا نہ خطرہ۔ یہ لگن تہہ خدشہ کامہ کوچہ اسیہ بھونہ تہنہ پینہ
پورہ غلبہ حاصل۔ امیک اطلاع یلہ بنی اسرائیلن دوت تم گے سخت پریشان۔ تھو ہنوا بچ چارہ جوئی رجا
بڑن حضرت موسیٰ اسی نبیہ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا حضرت موسیٰ ان
فر مو پنے نس قومس سدو مھو خدائس یہہ کر دصبر باہر دمنہ کہینہہ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ہر پاپ یہ زمین بھو سوڑوی خدایہ سدوی امیک وارث کرہ سو اسی نس یڑھ پنے نیو
ہندو آند رہ۔ کہنہ کالاہ دشن فرعونس مگر وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آخر بھہ کامیابی تہن ہم خدائس کھوڑہ
وَن آسن تھہ روزہ و مستقیم ایمان و تقویٰ اسی پینہ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یڑھ یہ سلطنت کرہ تو ہی عطا
قَالُوا أَوْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا تھو دو ہمس اکی حضرت موسیٰ اسیہ و ہجہ
ہمیشہ مصیبتھی مصیبت۔ اسیہ آو سخت تکلیف دنہ تھہ ہر دنہ برو تھہ تہ تہ توہہ پتہ تہ۔ توہہ برو تھہ آئی سان
بے شمار لوگت مارنہ۔ وون بھو سوئی تجویزیہہ کرنہ یوان۔ آخر ہنہ کیاہ وون۔ قَالَ حضرت موسیٰ ان
د بھہ تسلی فرمود کھہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ مہ بھہ امید کہ عنقریب کرہ تھہ پروردگار تھہ جس ڈ شمنس ہلاک۔ یہہ کرہ تو ہی ہمہہ ملک
پادشاہت عطا۔ تو پتہ و ہجہ سو تھہ کھوہ کوم کھرو وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْيَمِينِ وَنَقَضْنَا
عَهْدَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ غَافِلِينَ ﴿۱۳۰﴾ تھہ قومس انکار و مخالفتس پینہ کمر

فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقِصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳﴾
 فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لِنَاهُذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ
 يَتَّخِذُهَا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ إِلَّا إِنَّمَا ظَنَرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ
 مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْنُكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾ فَأَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ

گوئی اُسے کوربتا فرعون سند خاندان قحط سالی سیت۔ یہ میون ہمدہ نقصانہ سیت۔ تھہ تم تم ہی سیت
 نصیحت زٹن۔ پائس پین ۵ پڑتھ قبول کرن۔ مگر تم نہ پند نہ تمہ سیت کانہ اصلاحاوا۔ بلکہ سپہ جو
 نہ حال کہہ۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لِنَاهُذِهِ اُدہ بلکہ تم خویاوا اتان آس دپان آس یہ آس سالی
 غیظہ۔ آتھ سزاوار آس آس آس جھناڈیکہ بڈ ۵ کوش قسمت۔ یہ آس نہ تم کران کہہ خدایہ سز نفعت
 زاتھ دپہ ہنس شکر تو پتہ کرہ من اطاعت ۵ فرمانبرداری قبول وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّخِذُهَا بِمُوسَىٰ
 وَمَنْ مَّعَهُ توتہ ہر گاہ کانہ ہد حالیوا، قحط سالیوا ولتہ ہکھ۔ تھہ آس دپان یہ واڑ حضرت موسیٰ یہ
 جھدین بیرون ہمدہ شامت ۵ نحوست۔ إِلَّا إِنَّمَا ظَنَرُوهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وازہ نوزو جھدہ نحوستک اسباب جھہ
 خدایہ سندس علمس منز موجود وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر تموا اندرہ ہکھ اکثر لوکن کج خبری۔ تم
 اسباب گئے جھزہ مگر چہ کامہ سرکشی ۵ ظلم۔ یہ بغاوت ۵ شرارت۔ سو نحوست آسکھ تمہ ٹوی سزا
 وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَخْنُكَ بِمُؤْمِنِينَ حمہ علاوہ آس تم دنان کہہ
 اکی موسیٰ ڈٹھ کیتھ کتھ اکتھ کہہ اُسہ لہہ کانہ عجیب عجز او، یہ سیت کہہ اُسہ پیٹھ سحر ۵ جو دکرو پتہ خیال۔ مگر
 اُسہ پیٹھ تمیک اثر یہ نہ کینہہ۔ توتہ انونہ آس توتہ پیٹھ ایمان ہرگز۔ ہنس بلکہ جھز سرکشی لات پیٹھ واڑ
 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ ہنس سوزہ اُسہ تم
 پیٹھ قحط سالی ۵ میون اندر نقصانہ علاوہ مسمہ مسمہ بلا یہ، اکھ کثرت بارشہ ہمد طوفان ۵ سیلاب ہنس تم

مُفْصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۱۴﴾ وَلَمَّا
 وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُرْنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ
 عِنْدَكَ لَئِن كُنْتُمْ عَلَمًا لِّلرِّجْزِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ
 مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۵﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى
 أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿۱۶﴾ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

گھرن اندر ٹٹھمن منزاوت۔ یہ سوزا سہ تمن کن ہلو۔ سمو تھند سوزوی زراعت شہاد و بر باد کور۔ یہ سوز
 اسہ تمن کن کر مل تہ کیم سمو تھند سوزوی غلہ نس سمو ذخیرہ کور مت لاس تہاہ کور۔ یہ سوزہ اسہ تمن کن
 نہ موغجہ۔ سمہ کھینہ کھین تہ چنہ کھین چیزن منز آسکھ و سان تہ پھیران بیہ خون نس تریشہ بدل
 چوان آس۔ آنس اوسکھ خون بان۔ سمہ واریاہ نشانہ تہ واضح مچڑہ۔ سم ستوے مچڑہ تہ بیہ عصاء تہ پو
 بیضاء گئے کو مچڑہ ساری۔ سم مچڑہ و مچھتہ ہڑہ ہا تمن ایمان اُن تہ پڑھ کرن مگر فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
 قَوْمًا مُّجْرِمِينَ کور سمو مچھ۔ در حقیقت آس تم جرائم پیشہ۔ ایڑ تختی و اتھ تہ آی نہ سم سرکش لہیہ باز
 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُرْنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ بلہ تمن سمو عذابو اندرہ
 کانہ عذابہ و اتان لاس تمہ ساء آس و نان اکی موسیٰ ساید خطیرہ مچھو پنے نس خدا نس سمیک تم توبہ
 سیت و عدہ کور مت مچھو کہ ہر گاہ تم نافرمانی لہیہ بازین تلہ گرو آس تمن لہیہ تختی تہ عذاب دور۔ لہین
 كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اُس بھہ قسم ہوتھ و نان کہ
 ہر گاہ یہ عذاب اسہ لہیہ دور کرد، ضرور گرو آس توبہ ہڑہ۔ یہ سوزو کہ آس آزلو کر تھہ بنی اسرائیل توبہ
 سیت فَلَمَّا كَشَفْنَا نَس بلہ اُس حضرت موسیٰ سیدہ و دعاء سیت دور کران آس عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى
 أَجَلٍ هُمْ بِلِغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ تمن نشہ عذاب تھہ و قس جان۔ تھہ و قس جان تمن و اتن اوس۔
 اُلی آس تم سمو عمدہ یہ ٹٹھروان۔ تمہ پتہ بلہ اسہ و تھہ کہ تم بھنہ پنے شرار تہ لہیہ بازوان فَأَنْتَقَمْنَا
 مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ نَس ہنات اسہ تمن انتقام سمہ طریقہ کہ پھانو اسہ تم دریای قلزمس اندر

فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَانْتَهُمُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا
 غَافِلِينَ ﴿۱۶﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ
 مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ
 رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا
 مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿۱۷﴾
 وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ
 عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ قَالُوا يَا مَوْسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ

يَانْتَهُمُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اکی منو کہہ کہ تمہو کیا زبان سان آیات آہن۔ یہ آس سانہ
 آیاتونہیہ تغافل تہ بے توجہی کران اصرار و عنادہ سیت۔ اطاعت و فرمانبرداری ہند وعدہ کر تھ آس
 سونو وعدہ پھنہ راون وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي
 بَرَكْنَا فِيهَا فرعون تہ جہد قوم ہلاک کر تھ بناواسہ وارث تم لو کہ ہم کمزور یوان آس زانہ تمہ ملکہ
 کہ مشرقی حبک تہ تہ مغربی حبک تہ۔ تھ ملکہس اندر اسہ ظاہری و باطنی برکت تھاومڑ آس۔
 وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا یہ سہڈ پورہ نیکی ہند زت وعدہ بنی
 اسرائیلن سیت جہدہ ضر کر تھہ برکتہ وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ
 یہ کور اسہ تباہ تہ سوزوی یہ تیار کران لاس فرعون تہ جہد قوم۔ یعنی جہد کارخانہ یہ یہ تم تمن کارخان
 اندر تیار کران آس۔ یہ ہم جہد جہد مکانہ تم بنا کران آس۔ وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا
 عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ قَالُوا يَا مَوْسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ
 ساری لشکر ہتھ پھاٹو۔ بس پک تم اہس تو مس کن ہم پندہ پن پو تلین برو تھہ مندہ پر سٹھہ خیطرہ بہتھہ آس
 قَالُوا يَا مَوْسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ الْعِزَّةُ فہنہ لگ (ہم بنی اسرائیل) اکی موسیٰ سانہ خیطرہ تہ

وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْمَةٍ
 مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ
 هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿۶۷﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ
 رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَىٰ

موسیٰ اس تین شمن روزوں کو طورس پیٹھ اٹھکافس۔ یہ روزوں دو تین روزہ دار۔ آدھ کرووہ اس عطا
 توہمہ تورات۔ توہمہ کرہ نوو سو اسہ پورہ تم ترہ (۳۶) دوہ یہ (۱۰) دوہو سیت فتمہ مِيقَاتٍ رَبِّهِ
 اَرْبَعِينَ لَيْلَةً اس پورہ مٹھل سہد تمہمہس پروردگار سہد مقرر کرنہ آمت وقت ژ تہ (۶۷) راژ۔ یعنی
 ژ تہمہن راژن عبادت ژ تہمہن دو تین روزہ دار روز تہمہ کور تمہو ملاقات خد اس سیت کوہ طورس پیٹھ، تہمہ
 ملاقاتس منز کوڑکھ اللہ تعالیٰ ان تہن کتاب تورات عطا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي
 فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ یہ سہہ ساتہ حضرت موسیٰ کوہ طورس پیٹھ ینہ
 خیطرہ درایہ تمہہ وقت فرموو تمہو برادرس پندہ نس حضرت ہارونس ژہ سہد خلیفہ میوان میابہ قومہ
 خیطرہ۔ یہ یوٹ ہٹی تہوت کرژہ قومس اصلاح۔ یہ تہمہن ہککھہ مضمدان ہنزہ و تہہ بد نظمی کرہ و تہن ہنزہ
 رایہ موجب کرژہ نہ عمل وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا اتھہ واقفس اندر ملیہ حضرت موسیٰ آو سائہ
 ملاقات خیطرہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تہن سیت کرہ واریاہ لطف و مہربانی ہنزہ تہمہ تہمہ ہروردگارن۔ خد تہ
 انبساط سبہ سہد کہ شوق دیدار لذت گفتار حاصل سہت کوڑکھ تہی لذت دیدارک ڈرخواست
 قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ حضرت موسیٰ ان کور عرض اک میابہ پروردگار سہہ ہاوتہ تہن ذات پاک،
 نوو تہمہ ہت ژہ قَالَ لَنْ نَرِيكَ اللهُ تعالیٰ ان فرمواس ژہ ہککھہ نہ مہ وہ تہمت ذنیاءس اندر کیاژہ
 سہہ تہمہ ان نہ تاب میابہ دیدارک ذنیاءس اندر وَلَكِنْ انظُرْ إِلَىٰ الْحَبَلِ مگر تہمہہ تسلی خیطرہ
 ہکھو سون تجویر تہمہ تہہ دیو نظر تہمہ کوہس گن۔ اس تراؤد تہمہ پیٹھ تہن اکھ پر توہہ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِينِي فَلَمَّا تَجَلَّى
 رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمُوا مَوْسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ
 قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۳﴾
 قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ
 بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۷۴﴾ وَكَتَبْنَا
 لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ

فَسَوْفَ تَرِينِي نہیں ہر گاہ یہ کوہ چنہ جابہ بر قرار نہ ڈنجر راد۔ تیلہ شاید بیگو شہ مہ دہتھتہ چنانچہ حضرت
 موسیٰ زود اٹھ کو بس کن و چمان فلما تجلی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمُوا مَوْسَىٰ صَعِقًا نہیں بلکہ
 جلوہ ترود حضرت موسیٰ سب پروردگار کوہ طورس پینہ تم جلون کورتھ کو بس ڈس تو پتہ نہیں پھلہ
 حضرت موسیٰ ہو بیوش سپتھ پھر دستھ فلما أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ اُدہیلہ ہوشہ آی
 حضرت موسیٰ، عرض کو رکھ، واقعی پٹھو چون ذات پاک سہوا پٹھو سیت و محمد لہبہ منزہتہ پاک۔ اکی
 میانہ پروردگارہ ہو پٹھوس چانس خدمت اندر لہبہ مشتاقانہ در خواست کرہ لہبہ معذرت منگان
 وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ہو پٹھوس چانس ارشاد کن ترانی نہیں پینہ گوڈہ لکھوی پٹھہ کرہ وان
 قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ
 فر موسیٰ اللہ تعالیٰ ان اکی موسیٰ۔ یہ پٹھو سیتھاد جہدہ خیطر ہکہ ہر پٹھو مہ کو رکھ ژہ برگزیدہ لو کو اندر
 پٹھہ پیغمبری سیت ہر پٹھہ کلامہ سیت۔ نہیں رٹ ژہ یہ مہ ژہ عطا کو زوی۔ ہر آس ژہ شکر گزار ہندہ
 اندرہ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ہر دمت اہبہ لیکتھت کہون ہن پینہ پر پٹھہ چیزہ سچ
 دینس منز ضرورت آس مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ہر سہ بذ نصیحت پٹھہ ہر پٹھہ منز پر پٹھہ
 چیزک بیان دہرہ ناوتھ پٹھو فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ ہر پٹھہ پٹھہ ہر پٹھہ عمل کو شہ سان وَامْرُ
 قَوْمِكَ يَاخُذُوا بِأَحْسِنَا ہر پٹھہ حکم پٹھہ نس قومس کہ تم ہر رٹن اچہ رٹہ رٹہ پٹھہ ہر رت رت

شئٍ فَخَذُّهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا
 سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿۵۰﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ
 يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا
 لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا
 وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۵۱﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

ہدایات تھے منزہ نحو سوروی ز ثوی سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ عنقریب ہا وہ تو توبہ نافرمان بند کرو۔
 ا تھ منزہ بشارت و وعدہ کہ تُو داتا و وہ جبہ مصرس یا شامس اندر حج سلطنت کر وہ عطا۔ خدایہ سزہ
 فرمانبرداری بند بھجے سے فائدہ نافرمانی سم کرن جبہہ خلیطہ ہ نحو سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ
 يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ عنقریب بھر کہ تُو پندہ نیو آیا تونہ قدرہ کیونشا تونہ تم کو کہ سم
 بھر کران بھجے زمینس منزہ حق۔ یعنی تمن سپدہ نہ آیا تُو نہ بجزو سیت کا نہ اثرہ۔ دلن ہنزہ قساوت و
 شقاوت سبہ وَلَنْ يَرَوْا كَلِمًا لَا يُؤْمِنُ بِهَا ہر گاہ تم و چمن ساری آیات ہ معجزات تُو نہ کرن
 نہ تم پڑہ۔ ہنزہ نہ تھی بھجے عجب وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ہر گاہ تم ہر حج و تھ
 بھجے و بھجان تمہ و نہ بھجے تم بکن ہوان وَلَنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ہر گاہ گمراہی ہنزہ
 کا نہ و تھاد و چھان بھجے تمی و نہ بھجے بکن ہوان یہ ہ نحو علامت دلن ہندہ مسخ سپدہ تک ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ یہ حالت بنے یہ تمن ای سبہ بھجے تم آس بھجے سبہ اہد زانان
 سائین آیاتن یہ آس تمن آیاتن اندر غور و فکر کرنہ بھجے بالکل غافل۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ یہ سمولو کو سان آیات ہ اسہ سیت ملاقات کرن آخرتس اندر
 اپز زون، تھ کوز کہ انکار، ہنزہ سارے عمل تمن ہندہ بھجے نہ فایدہ بھجے تمن امید آس بھجے ضائع
 هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تمن لہ نہ سزا نہ مگر تملوی یہ تمن کران آس، بھر و انکار ہ

بِأَيَّتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْيَالُهُمْ هَلْ يُجْرُونَ
 إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۵﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ
 حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا أَلْمُورًا إِنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُم
 وَلَا يَهْدِي لَهُمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوا وَكُورًا ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾ وَلَمَّا
 سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن
 لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۷﴾

تا فرمائی ہند سزا بخورای و اتخذه قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلًا جسدًا آلہ خورًا الیہ حضرت
 موسیٰ کو وہ طورس پیٹھ تورات اُنہ خیطرہ گئے۔ تہمہ قوم بنو تمین ہتہ پنہ نس تہہ گہنس نس تمبو قہین لہم
 خاند کہہ ہمانہ مہجت اوس اومت اکہ دوڑھاہ۔ اُس لگہ کرنہ پر تہش۔ تمسز حقیقت آس صرف یہے کہہ
 سو اوس بدناہ اکہ سمیہ منز گاوہ ہنز آواز نیران آس، بیہ اوس نہ تہہ منز کانہ کمالاہ سمہ سیت جہمہ
 معبود آسک کانہہ عاکس خیال گواہ ہا۔ اَلْمُورًا اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِي لَهُمْ سَبِيلًا تمبو کونہ
 سنا چہ تہہ تہہ کن کہہ سو اوس نہ انسان سندیوت بہ کمال پانس منز تھاوان۔ یعنی سو دوڑھاہ اوس نہ تمن
 سیت کانہ تہہ ہیکان کر تہہ نہ اوسکہ دہنچ یا دنیاہ چ کانہہ دتہہ ہیکان ہاوتہہ اِتَّخَذُوا وَكُورًا ظَالِمِينَ
 لہے دوڑھاہ زون تمبو معبود ہین، آس تمہہ کرنہ سیت پنہ نس پانس ظلم کرہو نیو اندرہ وَلَمَّا سَقَطَ
 فِي أَيْدِيهِمْ حضرت موسیٰ سیدہ کوہ طورہ پیٹھہ وانس ہتہ پتہ یلہ تمبو اتہہ پیٹھہ مہنیہ کور تم گے سہشاہ شرمندہ
 نادم نہ ہکسان اتہہ پیٹھہ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا زون تمبو کہہ واقعی تمہہ بالکل ڈلت، گرا ہی اندرہ دست
 قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہر گاہ
 نے تم کرہ اسہ پیٹھہ پروردگار سون۔ بیہ نے سو اسہ تہہ سمہس مغفرت کرہ تلہ سہد و اُس بڈیو تھاوان زو
 اندرہ وَلَمَّا رَجَعِ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا تو پتہ یلہ وانس آی حضرت موسیٰ پنہ نس
 قَوْمِ كُن سہشاہ ڈکھ ہتہ، سخت نمکین قَالَ فَرَمَوْكُم قَوْمِ كُن گواہ ہتہ سَا خَلَفْتُمُونِي مِنَّا

الْعَجَلِ سَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا
 مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۴﴾
 وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ وَفِي نُسخَتِهَا
 هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿۳۵﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى

پاٹھ سمولو کو بنو سامری سہو و ڈھ پنن مشہور۔ اگر نہ وہ بتہ تم توبہ کرن سَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ
 وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تلہ وسہ عنقریب تمں پیٹھ غضب تہ بیزاری۔ جہدس پروردگارہ سیدہ
 طرف۔ بیہ تمہ علاوہ خواری تہ رسوائی دنیاچہ زندگانی اندری۔ یہ بختہ جنزی کینہہ خصوصیتہ
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ہجہ ہجہ آس اٹھوی سزا دوان لہز نصراوہ و نمین کہ دنیا سی منزہ ہجہ آس تم
 ذلیل و خوار کران۔ کانسہ فوراً کانسہ پتہ پنن وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا ہجہ
 تم لو کہ سمو ہجہ کامہ کرہ مثلاً و ڈھ سز پر سٹش، توبہ تہ کوز کہ توبہ ہجہ اوٹھہ ایمان کفر تراوتھہ اِنَّا
 رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ہز پات جہد پروردگارہ ٹھو بدن ہمدہ توبہ کرنہ پتہ جہدین ٹھنن ضرور
 مغفرت کرہ ون۔ ہجہ جہدس جالس پیٹھ رحم کرہ ون وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ تلہ آدہ
 حضرت موسیٰ ان حضرت ہارونہ سز یہ معذرت یوز ڈ کہ تہ ہجہ أَخَذَ الْأَلْوَابِحَ تھتھہ تمہ ہجہ سمن پیٹھ
 تورات لیکھتھہ آس وَفِي نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ در حالیکہ تمہ کس تحریرس
 منز آوس بوڈ ہدایت تہ بذرحت تمں لو کن ہمدہ خطیرہ سم پتہ نس پروردگارس ہجہ کھو ڈان۔ مزاوہ ٹھو
 تمہ اندرہ تمک تم احکام سمن پیٹھ عمل کرنہ سیت شخص ہٹھو ہدایت یاب سپان۔ رتھس امیدوار
 سپان۔ تلہ ڈ ڈھہ سہ قصہ ختم سہد تہ حضرت موسیٰ ان بیت تورا تک احکام اطمینانہ سان لوکن و اتا دن۔
 مگر تمں لو کن یعنی بنی اسرائیلن لوس عادت سمہ تم آس پر ہجہ تھہ پیٹھ شہادت پیش کران۔ چنانچہ
 اتھہ مو قفس پیٹھ تہ کور تمویہ شہہ پیش کبہ آسہ تھہ پاٹھ سپدہ یقین کہ سم احکام کیا ہٹھہ واقعی اللہ تعالیٰ

قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّبَيِّنَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿٥٧﴾

سیدی احکام۔ اسی دن پانچواں نبی محمد اسے پورہ یقین سپدہ چنانچہ حضرت موسیٰ ان کرہ اللہ تعالیٰ اس لشیر یہ تھے پیش توڑہ سپدہ کہ حکم سمو بنی اسرائیلو آندره کرے کہ منتخب کینہہ لو کہ تھے ائیو کہ پاس سیت کوہ طورس پیچہ۔ نیاوند تمن پانچواں واقعی چھہ ہم میان احکام تو پتہ آوتمہ خیطرہ اکہ وقت مقرر کرنہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّبَيِّنَاتِنَا چنانچہ ثارہ منتخب کر حضرت موسیٰ ان ستنہ (منازل) پنجہ قومہ منزہ سانس مقرر کر قس و قس پیچہ اسی لشیر اندہ خیطرہ چنانچہ توت واجتہ نوز تمو خدلیہ سند کلام۔ خدلیہ سند کلام نوز تہ لگ وندہ اسی تہجد پاٹھہ بیہ کہ یہ ہتھو خدلیہ سندوی کلام لہذا انو تان نہ اسی وارہ کارہ پنہ نیوا ہتھو اللہ تعالیٰ وچمن توتان گرونہ اسی پڑھہ اسی گستاخی سببہ آو من بنیل۔ ہر کن دیکھہ تر تھ۔ ساری گئے تھسی روز تہ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ آدہ بلکہ تم بنی اسرائیل رب بل قَالَ رَبِّ حضرت موسیٰ ان کور عرض اکی میانہ پروردگارہ مہ ہتھو معلومی کہ من لو کن ہتھو سزا دین منظور، ہلاک کرن مقصود، ہتھو نہ کیا زہ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي ہر گاہ ژہ یہ منظور آسہی تلہ کرہ ہتھہ ژہ برو تھسی ہم ساری ہلاک۔ مہ یہ کرہ ہک ہلاک تھسی سیت أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا سببہ کر کہ کیونہ احمقن ہند کہ حرکتہ سیت اسی ساری ہلاک إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ یہ واقعہ ہتھو نہ مگر چان اکہ آزمایا شاہ یہ امتحاہ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ہتھیو امتحاہ سیت ہم ژہ خوش کرہ نے تم کرہ ہتھہ گمراہ ہم ژہ خوش کرے تم تھاو ہتھہ ہدایتس پیچہ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ژہ ہتھو کہ سون مالک نہس کر ژہ اسی مغفرت۔ اسی وہ معافی۔ ہر گمراہ اسی پیچہ رحم۔ ژہ ہتھو کہ رت مغفرت کرہ ان یہ گنہن مغفرت کرہ نیوا آندره سیشاہ بہتر۔ بنی اسرائیلو آندره سمو یہ گستاخی کر تمن یہ وہ معافی۔ چنانچہ تم ساری گے ہر زندہ آتھہ دُعاءس سیت مگر حضرت موسیٰ ان یہ بیا کہ دُعاء بنی

وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا أَلَيْكَ ۖ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۱﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ

اسرا ممکن ہے کہ وہ وَاكْتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ ہے لیکھ ساریہ خیطرہ دنیا اس اندر یہ رت حال ہے آخر جس اندر یہ رت حال اِنَّا هُنَا اَلَيْكَ کیا زہ پزناٹ اسہ کور خلوصہ سان ڈے کن رجوع۔ دنیا آخر تک خیر ڈھونڈ حضرت موسیٰ ان پندہ لندہ خیطرہ۔ امہ اندرہ لاس جہد مقصد کہ میانی امت کرتن ساری امتن ہنز سردار یہ مافوق قَالَ اللهُ تَعَالَى اَنْ فَرَمُوْكَ عَذَابِيَّ اُصِيبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ میں عذاب یہ غضب لیس ہٹھو سوواتادہ بوتس لیس نو پڑھ وَرَحْمَتِيَّ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میان رحمت ہٹھ تیو عام۔ داتھ ہٹھ سو پرتھ چیزس فَسَأَكْتُبُهَا ساروی اندرہ کرن بو تمہ رحمتہ سیت خاص سوی امت ہے لیکھ نو سورحت تمنی لو کن ہمدہ خیطرہ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ سم خدا نس کھو ٹن۔ ہے اسن مانج زکوٰۃ دو ان۔ یہ سم اسن سائن آیاتن پڑھ کر ان یعنی تمن ہمد اعمال و افعال و اعتقادات درست اسن۔ اتھ منزل اس احتمال کہ ہنوں اندر یہ مانیرہ من بعض اشخاص تمن پیٹھ یہ تعریف صادق ہے ہا۔ اللہ تعالیٰ ان فرمود مزید توضیح خیطرہ کہ امت ہٹھ حضرت پیغمبر آخر الزمانہ سزی امت۔ میں خیریت دنیا آخرت اللہ تعالیٰ ان عطا کور اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ تمن لو کن یم پتہ پتہ اسن پکان، متابعت اسن کر ان جس پیغمبرس، لیس رسول یہ ہٹھو، نبی یہ ہٹھو یم نہ کاسہ لہر نہ پرت ہٹھو کہینہ نہ ہو ہٹھمت ہٹھو کہینہ۔ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ جس پیغمبرس لیس تمن لو کہ لہان ہجہ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
 الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
 عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُواهُ وَنَصَرُواهُ وَ
 اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٦﴾
 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
 إِلَٰهِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي

پاؤس نبیہ پنہ نین کتابن تورائس ۵۶۶ بئیس اندر لیکنہ آنت یعنی نعت ۵۶۶ صفت جہد کردہ آنت۔ تمہ
 علاوہ پنہو جہد صفت یا امرہم بالمعروف وینہم عن المنکر سو پنہم بر حق پنہو تمن لیکن ہند
 حکم کران۔ یہ پنہو کہ بد پنہی منع کران ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث یہ پنہو
 رت رت ۵۶۶ پاک چیز حلال کران ہم تمن پنہی حرام آس۔ یہ پنہو تمن پنہی ناپاک ۵۶۶ ہندہ چیز حرام
 کران ویضع عنہم اصرہم والان تمن پنہی جہد گویا ہر یعنی تم سخت احکام ہم تمن پنہی ہندہ
 کردہ آنت آس والاقبال الیٰی کانت علیہم یہ احکامن ہنزہ تمہ تکیہ ہمہ تمن پنہی آسہ برو تمن
 شریعتن اندر فالذین امنوا بہ وعزروا و نصروا ہس تم لو کہ سمو پڑھ کر آس پنہم برس
 یہ کر پنہو حمایت ۵۶۶ و اتبعوا النور الذی انزل معہ اولیک ہو المفلحون یہ کر کہ متابعت
 تھے نورس ہس نور تمن سیت نازل آو کردہ یعنی کتاب و سنت، قرآن مجید ۵۶۶ حدیث شریف تم لو کہ
 ہجہر ستکار ۵۶۶ کامیاب ہم عذاب ابدی نبیہ ٹھوڑ روزن قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
 جَمِيعًا فرمائیو کہ جہہ یارسول اللہ اکی تمام دنیا کیو لو کو پڑ پانہ بو پنہوس پنہم خداتوہہ سارنی کن۔
 لآلہی لہ ملک السموات والارض ہس خدایہ سبہ طرفہ یسنز حکومت ۵۶۶ بادشاہی سارنی
 آسمان ۵۶۶ زمین منز پنہو لا الہ الاہو ہس وراہی پنہونہ عبادتس سزاوار کانسہ اکھ پنہی ویوینک
 سوی پنہو زندگی عطا کران ۵۶۶ سوی پنہو ماران قاموا باللہ ورسوله الیٰی قیٰی ہس کر پڑھ آسی

وَيُبَيِّنُ فَأَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ الّذِي الّذِي
يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبَعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۳۷﴾
مِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۳۸﴾
وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَّمًا وَاَوْحَيْنَا اِلَى
مُوسَى اِذَا اسْتَسْقَى قَوْمُهُ اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ

کھنس خدانس یہ ہے جسے اسے پیغمبر سے اسے ان پر وہ پیغمبر جو الّذی یؤمن بالله وکلمتہ سمیانه
کھنس خدانس یہ ہے جسے اسے حکم پر کہ کر مڑے۔ یعنی باوجودیکہ تمہود مرتبہ آیتھہ ہنوں نہ تمن خدانس،
خدا یہ سندین پیغمبران نہ کہان ایمان نہ نس منز کا نہ عارہ۔ اکی لو کو جبہ کیا زہ ہجوہ خدانس نہ جسے اس
پیغمبر پر کہ کر نس نہ ایمان نہ نس منز انکار کران وَاَتَّبَعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ یہ کہ اس پیغمبر
منز متابعت دیوہ جبہ و تھہ ہوراہ اس پیغمبر ایہ۔ بعضی لو کو کہ اس پیغمبر بر حقہ منز مخالفت مگر کہ
قَوْمِ مُوسَى اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ یہ ہے حضرت موسیٰ سیدہ قومہ منزہ اکھ جماعتہ
ہزیج۔ دین حج یعنی اصلاح و تھہ ہوان۔ یہ ہے تھہ تمی ہزہ سیتی پنہ نین معاملاتن نہ بین لو کن ہندین
معاملاتن اندر عدل و انصاف نہ کران وَقَطَّعْنَهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَّمًا اسہ کور اکھ انعام بنی
اسرائیلن پیٹھہ یہ کہ تمہ منز اصلاح و انتظام قاسم کرنے خیطرہ کہہ اسہ تمن الگ الگ بنین ہند اولاد
آسہ مناسبہ باہ حصہ نہ باہ قبیلہ پر تھہ اس قبیلہ کور اسہ اکھ اکھ سردارہ مقرر جمہرہ مگرانی خیطرہ
وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اِذَا اسْتَسْقَى قَوْمُهُ اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ہیا کہ انعام کور اسہ تمن کہ
سوز اسہ وحی حضرت موسیٰ اس گن بلکہ تمن نیرہ پن قومن آب ڈہونڈ۔ تمہ مونگ دعا خدانس آہ
خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرموا کہ کہ ڈنڈ دیو پنہ اسہ کورہ سیت فلان کنہ اہہ بلکہ تمہ تھہ کنہ ڈنڈ ڈ
فَاَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا آلی پھٹ تم کہہ منزہ باہ ناگ راد۔ سمی بنی اسرائیلن ہنزہ بنین

مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ
 الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ
 مَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۲۰﴾ وَاذْقُلْ
 لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ
 شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ
 لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۱﴾ فَبَدَّلْ

قبیل بنزہ کرنز قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ چنانچہ پریتھ قبیلن پر زہ نووین بن گھاٹ تہ یارہ
 بل یعنی آب حاصل کرنج جائے وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَى
 بیاکہ انعام کوراسہ تمن پیٹھ یہ کہ تروداسہ تمن پیٹھ آندک سایہ۔ بیاکہ انعام کوراسہ تمن پیٹھ کہ آسمانہ
 اول اسہ تمہرہ کہینہ خیطرہ خزانہ غیبہ منزہ آسمانی خوانچہ ہتھ منز تیار کر تھ لاس آسان ہا نمازہ تہ ترنجبین۔
 وند اوسکھ یوان کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھو تمونفیس چیز ذمنزہ ہم اسہ توبہ عطا کردہ
 مگر آتھ منزہ کر تموسانس حکمس بزخلافی۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
 تمہہ نافرمانی سیت تمواسہ کانسہ نقصان داتنوند، بلکہ آس تمہیان پانس ظلم تہ نقصان داتاوان وَاذْقُلْ
 لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ یہ کرو یادنود وقت بلکہ اسہ بنی اسرائیلن حکم کور بہو ہتھ شرس منز
 ہتھ ناوجھواریما وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ یہ کھو آتھ شرس منز ہمہ جاپہ توبہ خوش کردہ
 وَقُولُوا حِطَّةٌ یہ آکھ حکم کرنہ آتھ شرس منز اذان اذان ووزہ حط، یعنی اس ہتھ توبہ کران
 وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا یہ اترہ شرس کہ دروازہ منز کلہ کو مراوت عاجزی سان نَغْفِرْ لَكُمْ
 خَطِيئَتِكُمْ تمہہ سیت گرو اس بخشائش تمہدین برو تخمین غنمن سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یہ گرو
 اس پھو کارن زیادہ مہربانی عطا فَبَدَّلْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
 نَس بدلوو تمبولو کو سمو سمو آندرہ ظلم کوراکھ لفظا نَس خلاف لاس ہتھ لفظس نَس تمن تجویز کرنہ آیدو۔

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا
يَظْلِمُونَ ﴿۶۲﴾ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ
تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۶۳﴾
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا بِاللَّهِ مَهْلِكُهُمْ أَوْ

تمن آيوه وند که حطه ونبو، تمک معنی اوس سانين گمنن سپدن بخشايش، تته بدل وون شو حبه في
شعرة فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ نيس سوزاسه تمن پينه
عذاباه آسليمه طرفه امی وجهه که تم آس ظلم کران یعنی تعميل احکام آس نه کران وَسَأَلَهُمْ
پر شو جهه يار سول الله اذکيه زمانه گمنن يهودن عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تمه
شهره کين لوکن همه حال يه شهرک ناوايله بشو۔ نيس شهر بحر قلزمه کيس شخص پينه واقع اوس۔ شهر
به نيس نه کوه طورس منز باگ تمه شهرک لوکه آس درياء کيس شخص پينه بسنه موکه گاذه بکار کران زياده۔
تمنی لوس به دابه دوه گاذه رنگ منع آمت کرنه إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يلمه تمه دابه دوه گاذه
رند کيس حکمس اندر حده وذلان آس إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا يلمه به دابه دوه
تمن نجه گاذه جهزه يوان آسه آس پينه دو تله کله آبه نجه يهور کهار تته وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا
تَأْتِيهِمْ به دابه ورايے نين دو تن آسه نه گاذه تمن نجه يوان کينه۔ تمن دو تن آسه نيس طرفس کن
گوهان کذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تته پانه آس اوس تمن آزمائش کران بجايزه تم
آس نافرمان وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا بِاللَّهِ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ﴿١٢٦﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ
السُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿١٢٧﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٢٨﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ

پر ڈھکیا کہ حض تمہہ دھنگ حال یہ بلکہ تمہو بنی اسرائیلو آندره اک جماعتن اون سمجھ جماعتس سم ہا فرمائن
نصیحت کران آس کیا زہ چھوہ خبہ تمن لو کن نصیحت کرنہ سیت تئن وقت ضائع کران تمن عنقریب اللہ
تعالیٰ ہا فرمائی ہبہہ سببہ ہلاک کرہوان چھوہ نہ نڈر عذابہ کرہوان ہنحوہ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ تمہو نصیحت کرہو نیو دو یکھ ، آس چھہ تمن نصیحت کران سمجھ اس جہدس پروردگار س نشہ نڈر
پوش کر تھہ بڑی الذمہ سپد وہیہ دیوہ تمن سانہ نصیحت کرنہ سیت کینہہ اثر سپدہہ تم روزن ہبہ وارہ وہہہ
شکار کرنہ نشہ پتھہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ تمہ بلکہ تمن موٹھہہ سوڑوی سمہہ سیت تمن وعظتہ نصیحت
کرنہ یوان اوس یعنی تم زود نہ پتھہ ہا فرمائی نشہہ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ اُسہ دیت نجات تمن
سم اُسہہ پتھہ کامہہ نشہہ تمن منع کران آس وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ تمن نجات دتھہ
کر اُسہہ گرفتار تم لو کہ سمہو ظلم کور سخت پتھہ عذابہ سیت بہا کَانُوا يَفْسُقُونَ یہ کیا زہ تم آس ہا فرمائی
یہ عدول حکمی کران فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ تمہ بلکہ تمہو زیادہ سرکشی کر باز آئی نہ تمہو پتھہ کامیو نشہہ
سمو نشہہ تمن منع کرنہ اوس یوان قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اُسہہ کور تمن مستحسرت۔ حکم کور تمن کہہ
سپدہ واندر ذلیل وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
یہہ کرو سو وقت یاد بلکہ اعلان کور جہدہ پروردگارن کہ ضرور کرہہ مسلط سو تمن بہون پتھہ سمو گتاشی یہ
ہا فرمائی کر قیامتس دوہس تان تمہن حاکمن سم تمن سخت سخت عذابو سیت تکلیف واتاوان آس

الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۸﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ آمَماً
 مِنْهُمْ الصُّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ
 وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۹﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا
 الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا
 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي أَخَذُوا وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ
 الْكِتَابَ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّذَّارُ

إِنَّ رَبَّنَا لَسَرِيبُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پز پانچہ جہنم پروردگار بخوبی سوزش سخت عذاب کردان
 تہہ بہہ بخوبی سزاہ مغفرت کردان تہہ تہہ نہس نافرمانی نشہہ بازایہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ آمَماً تہہ گرہ اسہ
 تمن دنیا س اندر دریاہ جہانہ وَمِنْهُمْ الصُّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ چنانچہ اُو آس تمنو اندرہ نیکو کار
 تہہ آس اُو تخمہ بدل یعنی بدکار وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اسہ کرتمن بدکارن
 تہہ آزمایش ریتو چیز وسیت۔ صحت تہہ دولتہ سیت، بہہ بچہ چیز وسیت یعنی بیماری و فقرہ سیت، تہہ تہہ سیت
 بچہ کامیو نشہہ پتہ روز تہہ اسہ کن پھیرن تہہ رنجوع کرن۔ کیا زہ نہہہ پتہ خوشحالی، صحت و غنا باعث
 ہدایت بنان، تہہ تہہ پتہ بد حالی تہہ فقر و بیماری باعث عبرت بنان۔ یہ اوس حال جہنمین اسلامن ہند مگر
 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ تہہ تہہ تمن پتہ جہنم خلف تہہ
 جانشین تہہ تہہ اُو کہ سمو تورات تمن نشہہ حاصل کر تو پتہ آس ای تورا کہ آیات کن کن سمہ اونی زندگی
 ہند سامان حاصل کران۔ تو پتہ بڑہ بدیاتی کر تہہ اتہہ تہہس حقیر زمانہ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا تہہ آس
 بے پروائی سان زبان اسہ تہہ تہہ نہہہ کانسہ پر دل۔ اسہ سپدہ سارنی تمنن بخشایش کیا زہ اسے تہہ تہہ خدایہ سہہ پتہ
 خدایہ سہہ یار تہہ دوست وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي أَخَذُوا تم جہہ پتہ بے باکی تہہ گناہ حقیر زانہ تہہ تہہ
 تہہ تہہ ڈاؤ کردان۔ کہ ہر گاہ آئندہ دوبارہ دین کنہہ تہہ تمن کینہہ مال حاصل سپدہ سہہ کرن حاصل پتہ
 روزن نہہہ تہہ تہہ اُو کہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْكِتَابَ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ کیاہ تمن

الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ
بِالْكَتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۴۰﴾
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ؕ
حُدُّوَا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۴۱﴾ وَ
إِذْ أَخَذْنَاكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ

نشیہ چھنا تمہے کتابہ بندہ سمیہ مضمونک عمد آمت ہینہ کہ خدا نسیں کن لاکن نہ کانہ کتھاہ واقعہ نہ پڑہ کتھہ
ورای۔ تھہ ہڈل کم کم اہڑ چیز نو در او تمو، تے لاکھہ خدا نسیں کن۔ حالاکھہ تمبو پور سو عمد نامہ نسیں تو را نسی
منز لیکتھہ اوس مگر تمبو کور نہ دنیاہ ک متابع فانی حاصل کرنہ خیطرہ تمیک کانہ پردا **وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ**
بِالْكَتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ حالاکھہ آخر تک گمرہ پنچو بہتر تمن لو کن بندہ خیطرہ ہم خدا نسیں کھو ژان۔
تھہ کامیہ نہ پنچہ عقاید و نشیہ روزن ہتھہ۔ اسی بنو دو کیاہ توہیہ چھناہ کتھہ فخرہ تران **وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ**
بِالْكَتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ یہ سم لوک بنی اسرا کیلو آند رہ زورہ چھہ کر تھہ
چھہ اتھہ کتابہ یعنی تو را نسیں یہ تھہ نمازہ ہنز نہ پابندی کران اس کر ونہ ہر گز تمن نیکو کارن ہنز مزور نہ
ثواب ضایع۔ سم پانس اسیہ طریقہ اصلاح کرن نہ سبحان **وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا**
أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ؕ یہ پاؤنہ کہ ژنسیں تمن بھودن یلیہ اسیہ کوہ تھو دکل تمن پیئہ تراونہ خیطرہ۔ تھہ یں
کلن نزدیک تھو سا نیا تک پانھہ تمن سپد یقین کہ یہ یہ اسیہ پیئہ **حُدُّوَا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ**
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تھہ حاس آندر فر موکہ اسیہ کہ جلد کر و قبول یہ کتاب یوسہ اسیہ توہیہ عطا کر۔ مضبو علی
سان۔ یہ کر و تم احکام یاد سم اتھہ کتابہ منز چھہ تھہ جبہ منگی نہ پر ہیز کار و ہونہ نے کر و تلہ تراوودہ یہ کوہ
توہیہ پیئہ۔ یہ گو خاص عمد نسیں بنی اسرا نکل کر ناونہ آس آمت جبر ال۔ اسیہ پتہ ہتھو اللہ تعالیٰ بیان کران
عام عمد نسیں ساری بنی آدم انسان آس کر ناونہ آمت **وَإِذْ أَخَذْنَاكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ**
ذُرِّيَّتَهُمْ یہ پاؤنہ کہ ژنسیں سو وقت یلیہ تھہ پروردگارن عالم آرد اسیں منز حضرت آدم علیہ السلام

أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ أَشْهَدُ نَأْنَأُنْ
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غْفِيلِينَ ﴿۴۶﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا
أَشْرَكْنَا آبَاءَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا
بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۴۷﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَّاتِ وَلَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿۴۸﴾ وَاقْتُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْ
مِنْهَا فَاَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿۴۹﴾ وَلَوْ شِئْنَا

سید و بیستہ منزہ جہد اولاد، جہد بن اولاد ان ہند یو ہشتو منزہ جہد اولاد بھر کڈی و اشہدہم عن انفسہم
بیہ تھاون تھے پان پانس پیچھے گواہ۔ سارنی پر ژخن آست بریکم کیاہ یو ہنجوس نا جہد پروردگار قالوا
ہل ساروی دوپ بیشک ژی ہنجوک واقعی زب سون۔ امہ وقتہ آس حاضر کرنہ آست ساری ملایک
ہیہ مخلوقات۔ ساروی دوپ شہدنا آس ساری ہجہ امک گواہ۔ یہ سوزوی اقرار تہ گواہی آیہ رند
اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غْفِيلِينَ ہجہہ خبہ و ہجہہ ہجہو قیامتک دودہ پز پاپ آس آس امہ
توحیدہ نعرہ بالکل بے خبر اَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْنَا آبَاءَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ بیہ ہجہہ خبہ و ہجہہ
ہجہو ہجہہ شرک کورنہ مگر سانیو مایو ہڈی ہو۔ آس آس جہد اولاد تمن پتہ۔ امہ بلہ و ہجہہ تم بی کران آس تہ
پک جہزی و تہ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ کیاہ امہ کرکھ ژہ ہلاک تمن غلط کارن ہندہ ہجہہ
کامہ سبہ و کذالک نَقُصُّ الْأَيَّاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آس ہجہہ ہجہہ پاشہ و ہجہہ ناو تہ تن آیات بیان
کران۔ ہجہہ تم حقیقت معلوم سپنہ پتہ شرک و مکرہ نعرہ پتہ روزن و اقْتُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ
آيَاتِنَا فَانْسَلَخْ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ بیہ ہجہہ ہجہہ تمن ہجہہ ہجہہ آس شخصہ سند
قبضہ نئس امہ پتہ نئس آیاتن ہند علم عطا کورنت لوس۔ یعنی ہلعم با عورال نئس دراؤ سوتمو آیا تو منزہ یعنی
تمن آیاتن ہندو ہد لیا تو موجب پتہ۔ مال دنیا ک گممن کڈس کل او پتہ لئس پتہ شیطان۔ نئس سپنہ
ذلیہ اندرہ و لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ہر گاہ آس ہجہہ ہو سود کرہ ہو تس شخصہ سند مرتبہ۔ ہر گاہ سوتمو

لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ
 كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ
 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِصْ
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷۶﴾ سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۷۷﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ
 فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۷۸﴾

آیاتو بہ ہدایتو موجب پھیرا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مگر سوسپد مایل بہ خام طبع ذنیاء س کن وَاتَّبَعَ
 هَوَاهُ ہیر پوک سو پتہ پتہ فسرہ پن خوائشن۔ زمانن ہندس وند نس پیٹھ کرن عمل بہ آیاتو موجب کرن
 عمل تراون فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ آیاتو موجب عمل کرن تراون سو کہ نوسہ پریشانی بہ ذلت نس وند
 آہر تمہ اعتبارہ ہجھہ تسز۔ مثال ہون سز ہش مثال إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ہر گاہ ژہ
 ٹس چہ کر کہ، ٹس پیٹھ حملہ کر کہ، زیونکہ ہیر۔ ہر گاہ چہ کر ہس نہ توتہ کبڑہ زیونہیر۔ یعنی ٹس چیز ہو نس
 آڈرہ منز لازم آمت آہر تھاونہ سو چیز تراونہ سو کھنہ حالتس منز۔ تھہ پانہ ٹس آڈرہ منز خست بہ
 ذلت تھاونہ آہر آٹر سو تھہ تراونہ کھنہ صور نس منز ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 یچہ ہجھہ مثال تمن لو کن ہنز سمو لہر زان سان آیات یمن منز توحید و رسالتچہ دلیلہ ہجھہ فَاقْصِصْ
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٹس بیان کر و سم قصہ سمن بہوڈن دیوہ تم فخرہ بین سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ تھہ ٹس منز چہ سینہا ہجھہ مثال تمن لو کن ہنز سمو
 سان آیات لہر زان۔ تمہ سیت واتنوکھ نقصان بہ ظلم پان پانس مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ مَنْ
 اللَّهُ تَعَالَى هِدَايَتِ كَرِهَ سَوِيٌّ هَجْهُ هِدَايَتِ لِهَدَانِ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ سمن سوڈہ
 نھیر ذالہ ٹس چھہ تے ابدی تاوانس منز پتہ وال تمن نھیر ہدایتک توقع تھلان یا جہد س بے ہدایت روزہ
 ٹس پیٹھ ٹسکین سہڈن ہجھو بے کار۔ تم لوک بلہ نہ چنہ عقلہ ہندین توتن کامی چھہ ہیوان تمن عیاہنہ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۹۹﴾
 وَبِاللَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ

ہدایت۔ لہذا ہم نے جہنمہ دلچ جای جنم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ اسْمہ جہنمہ پیدہ کرتے جہنم منروزہ خیطرہ وارپاہ شخص جنوا ندرہ۔ انسانا ندرہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا سمن باوہ، خیطرہ دل بخو۔ مگر زائن بخوک نہ تگان کینہ۔ تم جہنم تمیک ارادے کر ان کہ اسمہ گوشہ فخرہ مزان کینہ۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا باوہ خیطرہ بخہ آچہ تمن مگر در غیثہ جھجک نہ یوان کینہ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا باوہ خیطرہ چھ کن تمن مگر بوڑن بخجک نہ تگان کینہ۔ پرتھ یام کنن موحان بخجک تام جہ گوش دوان اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ غرض تم لو کہ جہ آخرتہ لخبہ بے توجہ آس اندر تمن تہ چار پای بلجہ جہنمہ خودتہ یژڈلت اُولَئِكَ الْغَافِلُونَ تے لو کہ گئے غافل کیا رہ تم جہ باوجود جس دت تہ بے کسی لاگان۔ غفلت بخہ مرضوا ندرہ اکھ بوڑ مر ضاہ۔ امیک علاج بخو خدایہ سدیاد وَبِاللَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا خدایہ کی جہ رت رت، ناؤئس آسو جہ ای مسلمانو تموی ناؤویت تے آلودوان، سدیاد کران۔ تم جہ حدیث شریف منزمہ مت (۹۹) ناؤ بیان کرنہ آمت۔ یہ بخو آمت حدیث شریف منزمہ تم اسماء یاد کرہ سو ژاؤ جنس تمو ناؤویت آسوس بخہ پانھ آلودوان : بِاللَّهِ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مَلِكُ يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهْتَبِئُ يَا عَزِيزُ يَا حَبَّارُ يَا مُكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا غَفَّارُ يَا قَهَّارُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا عَظِيمُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ يَا مُعِزُّ يَا مُذِلُّ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا حَكَمُ يَا عَدْلُ يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ يَا غَفُورُ يَا شَكُورُ يَا عَلِيُّ يَا كَبِيرُ يَا حَفِيظُ يَا مُقِيتُ يَا حَسِيبُ يَا حَلِيلُ يَا كَرِيمُ يَا رَقِيبُ يَا مُجِيبُ يَا وَاسِعُ يَا حَكِيمُ يَا دُودُ يَا مَجِيدُ يَا بَاعِثُ يَا شَهِيدُ يَا حَقُّ يَا وَكِيلُ يَا قَوِيُّ يَا مُنِيبُ يَا وَلِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُحْصِي يَا مُبْدِيُّ يَا مُعِيدُ يَا مُحْيِي يَا مُمِيتُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا وَاجِدُ

فِي أَسْبَابِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸۱﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً
يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۸۲﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۳﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي
مَتِينٌ ﴿۱۸۴﴾ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ

يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا صَمَدُ يَا قَادِرُ يَا مُغْتَدِرُ يَا مُؤَخِّرُ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا وَالِي
يَا مُتَعَالِي يَا بَرُّ يَا تَوَّابُ يَا مُسْتَقِيمُ يَا عَفُوُّ يَا رُؤُوفُ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
يَا مُقْسِطُ يَا جَامِعُ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيُّ يَا مَانِعُ يَا ضَارُّ يَا نَافِعُ يَا نُورُ يَا هَادِيُّ يَا هَادِعُ يَا تَابِيُّ يَا وَارِثُ
يَا رَشِيدُ يَا صَبُورُ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْبَابِهِ تَرَوْنَهُمْ كَمَا تَرَى لَوْ كَهْمُ ذُلَّانٍ فِي نَجْمٍ وَنَجْمٍ كَانَ
بِحَبْرٍ جَمْدِ بْنِ نَادَانَ أُنْدَرُ لِعَنَى اللَّهُ تَعَالَى أَسْ بَحْرٍ پائے چند طرفہ نادر ٹھراوان یا جہند نادر جہ نس ورا ای بین
پیشہ استعمال کران یا جہر پچھ صفحہ ہمد نادر نس پیشہ استعمال کران۔ تمن سیت منہ تھارو تعلق سیججذون
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ برو نچھ مکن نکلن تم نتیجہ تمیک یہ تم کران چھر وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
وَبِهِ يَعْدِلُونَ جلن انسا ن اندر جھنہ ساری ذلتی بلجہ مچھ سانو مخلوقو اندرہ اکھ جماعتھہ ہم دین حق
یعنی اسلامہ موجب جھہ لوکن ذتھ ہوان یہہ جھہ پنہ نین لوکن ہندین متعلقاتن اندر عدل و انصاف
کران وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ یہہ سمولو کو اہر زان سان آیات تم
کھارو کہ اس آہستہ آہستہ نافرمانین اندر سیٹھہ تھو دتھہ پانچہ پانچہ نہ تمن زنہ کو ی جھہ یو تان تم
نار جھنہ نس نزدیک سپدن وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ یہہ دمہ نومن مہلت، جلدی کر کہ نہ گرفتار
عذاب دنیا اس اندر۔ پز پائ میون تدبیر جھو سیٹھہ مضبوط اُولَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ
إِلَّا نَذِيرٌ مَتِينٌ کیا سمولو کو کرنا غور نہ فہرکہ آخر آیات اللہن انکار کرن۔ تمہہ کہ خراب نتیجہ نہیہ
عاقل روز ٹک کیاہ سبب جھو۔ ہم آیات پیش کردن صاحب نعوذ باللہ بے عقل جھونہ تمن ہندہ قسمہ
مژر جھونہ، عمر گیہ وہ توہہ تمن سیت روز تھہ جھنہ حالات، جنز عقل نہ گانہ چار، لمانت نہ دیانت
وچھان۔ تمن جھو اللہ تعالیٰ ان عقل نکل عطا کورمت۔ تم جھنہ مگر نافرمانی ہمدہ سز او عذاب نہیہ لوکن عن

مُبِينٌ ﴿۱۳۶﴾ أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ
 اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ
 حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۳۷﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَ
 يَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۳۸﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
 مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي لَآ يُجَدَّلُ بِهَا لَوْ تَوَقَّعْتُ

پانچہ نیم کرہوں۔ یہ گوئیں صاحبہ منہ حال نفس صاحب آیات بیتہ آؤ۔ وون نفس لہیتہ بیتہ آؤ سوذات
 پاک گوئیں نفس ساری جمائک مالک ۷ شہنشاہ مطلق بخو آؤ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ کہا سموا چہنا آسمان وزمین کس انتقامس ۷ سلطنتس کن۔ یہ تمہو چیز و اندرہ لہیتہ چیزس
 کن ہم چیز اللہ تعالیٰ ان پیدہ کرمت جہہ۔ تہہ پانچہ بخو جہہ انتقام مضبوط ۷ محکم۔ تہہ پانچہ بخو پرتہ
 چیزہ پرتہ ذراہ جہہس کمال قدر تہہ پیٹہ گواہی دوان۔ تہہ شہنشاہ مطلق سہہ ارشادات ہم تہہ
 پیغمبر برحقہ سہہ واسطہ تمن وامت اسن۔ تہہ شوہ نہ نظر انداز کرن وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ
 أَجَلُهُمْ یہ کرنا تمہو غور تہہ کتہ کن کہہ جہہہ مر تک وقت ما آسہ نزدیک و دامت۔ تم کہہ تہہ بین خدا نفس
 برو تہہ کن۔ لہذا ہزہ ہاتمن مرنہ پتہ عذابہ لہیتہ بچہ نچ صورت کرن۔ یلہ نہ قرآن مجیدہ سیت، یوسہ
 سینشاہ بڈ مقدس کتاب تہہ تمن کینہہ اثر گہہہ، یلہ نہ تم قرآن مجیدس ایمان ان ۷ پڑھ کرن فہا ہی
 حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قرآن مجیدہ پتہ تہہ تہہ ۷ تہہ کلاس ان تم ایمان مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلا
 هَادِيَ لَهُ حقیقت تہہ ہے کہ نفس اللہ تعالیٰ و تہہ راورہ نفس بخونہ و تہہ ہادوان کانسہ وَيَذُرُهُمْ فِي
 طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ تعالیٰ بخو تمن کافرن تر لوان یکہ تہہ تم سر بکشی اندر سر گردان سپدن۔ تو پتہ
 دیکھ سزا اکھ وٹہ۔ لہذا منہ سپدن جہہہ دل مبارک تمکسین یار رسول اللہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
 مُرْسَاهَا پرتھان جہہہ تم توبہ یار رسول اللہ قیاس متعلق سہہ مگر بخو تہہہ ہر پاسہ تک ۷ واقع سپدن تک
 وقت قُلْ إِنَّمَا عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي جہہہ فرماؤ کہہ تمک علم بخونہ میانس پروردگارس ورا ہی کانسہ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْبَغْتَةُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ
عَهَا قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۸﴾
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ
كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ
السُّوءُ إِنَّا أَنَا الْإِنذِيرُ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۳۹﴾ هُوَ الَّذِي

لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ إِفْرًا ظاہر کرہ نہ تھے قیاس سے نہ نفس پیچھے کا نہ سے جس وراہی۔ تمہیں ظہور کر
وقت بخونہ بیانے کر نہ آنت کا نہ بعد کیا نہ **فَلَمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** سو بخونہ سیٹھا ہوناک
واقعا سے حادثہ کہ آسمان وزمین منز یعنی تن دون ہندین نہ و زمین پیچھے **لَا تَأْتِيكُمُ الْبَغْتَةُ** آہہ سو کہ
ایوہ نہ سو قیامت توہہ مگر ہجہ سے منگہ ہنزہ بے خبری منز **يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَهَا** پر ژحان سے
بجہ تم لو کہ توہہ آہہ قیامت۔ زن توہہ کچ نور خبر ہجہ **قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ** لہذا فرماؤ کہ جب
بصراحت سے تمیک علم بخونہ کا نہ خدا جس وراہی **وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ** لیکن اکثر لو کہ بجہ یہ تھے
زانی کہ بعضی علوم بجہ اللہ تعالیٰ ان تھاوت سے نہ جس خزانہ علمس اندر محفوظ۔ حضرات انبیاء ان سے بخونہ
تن ہند تفصیل ہونہ آنت۔ قیامت و فصیحہ کچ خاص وقت سے بخونہ تموی چیز و اندرہ کہ چیز **قُلْ لَا أَمْلِكُ**
لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فرماؤ کہ جب یا رسول اللہ قیامت سے معالج بجہ نصی، سو بخونہ
مخصوص خدیہ سیدی ذاتس سیت۔ مہ بجہ پاس متعلق پیش ایوہ زمین حالات ہنزہ سے کیہہ خبر۔ نو
بخوس نہ مالک سے اختیار ہول ہند ذات خطیرہ نہ منگہ نفس سے نہ منگہ ضررس مگر جوی ہند ایہ من اللہ تعالیٰ
بجہ۔ یعنی نو بجہ نہ ہند جس ذاتس کا نہ نفع و اتاوت تھے۔ نہ ممکن ہن ذات منہ نقصانہ بعد محفوظ تھاوت تھے
سے تھاوت تھے **وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ** ہر گاہ نو زمان آسانچ پر تھے کتھاہ تلہ
واتاوتہ ہا پاس تم تم خیر سے فائدہ ہم نہ نو سو زوی علم غیب نہ آہہ موکھ و اتاوت تھے بخوس ہکان۔
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ تلہ آہہ ہانہ مہ و اتان منہ تمسک تکلیفہ، نہ آہہ ہاسہ پیش یوان کا نہ

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
 فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
 دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِيُنزِلَ إِلَيْهَا صَالِحًا لَكُنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٩﴾
 فَلَمَّا أَتَتْهَا صَالِحًا جَعَلَهُ شُرَكَاءَ فِيهَا أَتَتْهَا فَتَعَلَى اللَّهُ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٠﴾ أَيْشُرُّونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿٢١﴾

ناخو شگوار حالتھا۔ اِنَّا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّيَسِيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ۔ يو، بھوس محض شریک کھم و اتا و تمھ بيم
 کرہ وان۔ یہ بشارت دہوان تم کو کون ہم پرہہ کرن۔ ایمان ائن نبو تک اصل مقصد بھو تشریحی
 امور زن ہند علم اسن۔ کورمہ اللہ تعالیٰ ان عطا کمال پتھ زود امور نکو بنین ہند علم سو بھونہ نبو۔ کیو لو از منو
 اندرہ۔ تمہ اندرہ ایڑمن اللہ تعالیٰ ان نو تھہ حید ہن کرن عطا زورہ۔ زبردستی سیت بھونہ سو کانسہ
 اکھ خدائیس لہیہ حاصل کر تمھ ہُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ سُو پرورگار گو سوی ہم توہ پیدہ
 کردہ اکی ذات لہیہ، سو گو حضرت آدم علیہ السلام وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا تمی اسمہ ذات منزہ کوزن
 پیدہ جوہہ جنم یعنی حضرت حواء لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تمھہ سواقت۔ قرار زیدہ نس سیت۔ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ
 حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ اودہ یلہ ذر کمال لطف و انبساط حضرت آدم پان بن اول حضرت
 حواء س یعنی ہمستری کرن نس سیت سو سپز بار دار، نس حمل ابتداء س اندر لو تو ی اوس، چنانچہ سو
 بیتھ آس سوارہ یور پتھہ بیکان فَلَمَّا أَثْقَلَتْ تمہہ پتہ یلہ چیر سیدہ دوہنہ خودہ دوہنہ بڈنہ سیت سو گو بے
 یہ تم لگ دو شوے بانیرنہ۔ دہنہ لگ یہ کیاہ ساقصہ بھو۔ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا دوشوی باژو مونگ اللہ
 تعالیٰ اس یعنی پتہ نس پروردگار س یہ مسئل گو تھہ آسان سپن لِيُنزِلَ إِلَيْهَا صَالِحًا لَكُنَّ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ دہنہ لگ سانبہ پروردگار ہر گاہ تھہ آسہ عطا کرہ بن رت فرزند اہ اس سپد و ضرور شکر گزارو
 اندرہ فَلَمَّا أَتَتْهَا صَالِحًا نس یلہ اللہ تعالیٰ ان رت صحیح و سالم فرزند عطا کرک جَعَلَهُ شُرَكَاءَ
 فِيهَا أَتَتْهَا ائی لگ بنی آدم خدائیس شریک ٹھہرونہ آتھہ مہربانی اندر یوسہ مہربانی سو عطا او سکھہ

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۴۶﴾ وَإِنْ
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿۴۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿۴۸﴾ اللَّهُمَّ ارْجُلُ يَبْشُرُونَ بِهَا أُمَّرَأَهُمْ أَيُّدِي بَطِشُونَ

کران فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ بخیر سبھاہ بندہ بہ بالا منزه بہ پاک ضموساروی شرکچو کتھو
نہیہ ہمہ نس کن بنی آدم لاگان چھ۔ ایشُرکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ سبھاہ ہم بنی آدم
بخا نس تمے چیز شریک ٹھہراوان سمند کینہہ بہ نیکن پیدا کر تھہ۔ تم بھہ پانہ مخلوق پیدا کرنے آستہ۔
معبود پیغمبر آستھ سنی نس نہ پانہ مخلوق آستہ۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ یہ
نیکن نہ تم معبودان باطل ضمواندرہ کانسہ اک سز یاری کر تھہ۔ نہ نیکن تم پنہ نس پانس کانسہ یاری کر
تھہ بین یاری کر خچ کیاہ بھہ تھی وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ کم ہر گاہ جہہ تمین معبودان
باطل عننہ کامہ خیطرہ نادو یو تم جہدس آلو س بہ نادس اجابت نیکن نہ کر تھہ سِوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ جہدہ خیطرہ بھہ دوشوے امر برابری۔ جہہ تمین ناددیتو توتہ تم جہد آلو
نوزن نہ یاڑھو پ کر تھہ روز تو تلہ بھہ تھی إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ
ای شُر کو پڑ پانہ تمین ہنر جہہ عبادت بہ پرستش کران بھہ خدایس ورا ی تم بھہ جہدی پانہ
خدایہ سند مملوک بہ بندہ، پانہ خدایہ سی کن محتاج پر بھہ چیزس اندر جہدی پانہ فَادْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ نس دیتو جہہ تمین ناد تمین ہزہ جہدس بھہ نادس اجابت کران
بھہوے جہہ جہدس معبود آستھس اعتقادس اندر پز نہر جہدس آلو س کیاہ کرن تم اجابت تمین بھہ تم
تان پوز سمو سیت کام بھہ یوان کرنے وچھو اللَّهُمَّ ارْجُلُ يَبْشُرُونَ بِهَا أُمَّرَأَهُمْ
أَعْيُنُ يَبْشُرُونَ بِهَا أُمَّرَأَهُمْ اذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا جہہ وچھو توارہ کیاہ کھور چھا تمین سمو سیت پکہ نین

بِهَآءِ أَمْرٍ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَآءِ قُلِّ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنظَرُونَ ﴿١٩٥﴾
إِنَّ وَرِثَةَ اللَّهِ الّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصّٰلِحِينَ ﴿١٩٦﴾
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا

تم کیا آتھ چھا تین سموسیت رتھہ بیچھ نین کینہہ کیاہ اچھ چھا تین سموسیت وچھتھہ بیچھ نین۔ کیاہ گن چھا
تین سموسیت یوزتھہ بیچھ نین کینہہ۔ یلہ نہ سم قوت تین اندر موجود ہتھہ لہذا کوسہ کوم یکن تم جنز
کر تھہ قلی فرما یو کہ جہہ یہ تھہ نہ یار سول اللہ کیہ تھہ پاٹھہ تم معبودان باطل پنہ نین پر سٹش کرہ نین
کانہہ نفع واتاؤس منز عاجز تھہ پانھہ تھہ پر سٹش نہ کرہ نین کانہہ ضرر واتاؤس اندر نہ سخت عاجز
یو ہتھوس تین پر سٹش کرہ نس سخت منکر۔ ہر گاہ تین اتھہ کینہہ ہتھو جہہ کڈ تو پتہہ دلگ ارمان ادعوا
شُرکاءکم جہہ دیوانہ تین پنہ نین ساری شریکن سم جہہ مشہور ہر حق ہتھو کہ شریک ٹھراوان ٹھہ
کینڈون تو پتہہ کر ٹوہہ ساری تین سمیت رتھہ ملیتھہ یہ تکلیف نہ ضرر واتاؤنہ کین تدابیرن اندر
کوشش تو پتہہ یلہ توہہ کینہہ بیچہ فلا تُنظَرُونَ تمہ سادہ منہہ دینومہ اکھ ذرہہ نہملت۔ ہلکھ گمبہ میہ پیچہ
یہ سواری فوراً چلاوان یہ توہہ مشورہ کر تھہ مقرر آسودہ کورمت۔ نوتہہ وہتھہ کیا تہہ جہہ نہ تھہہ معبودان
باطل کر تھہ۔ جہدین معبودان باطلن ہنز ہتھہ تھہ تم جہہ بالکل ٹھہل بے کار۔ پتھہ روددہ جہہ توہے
لور دیورمہ تکلیف واتاؤنہ خیطرہ اتھہ کھور زہتھہ راویو۔ مہ ہتھونہ تمیک نہ کانہہ پروا کیا زہہ إِنَّ وَرِثَةَ اللَّهِ
الّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصّٰلِحِينَ پز پانھہ میون دست، مددگار نہ مالک ہتھو اللہ تعالیٰ سمسدہ
مددگار آسک، یوز ذہبت ہتھو تمہ تم کرمہ پیچہ نازل سوہتاب یوسہ خیر دارین کین ساری چیزن جامع
ہتھہ۔ سو ہتھو عموماً نیک بندن پانہ مدد کران۔ حضرات انبیاء گئے نیک بندن ہند سردار۔ نوتہہ ہتھوس
نیو اندرہ اکھ فرد کامل۔ لہذا ہتھو میون یہ سو یقیناً مددگار وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ
نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفَهُمْ يَنْصَرُونَ پتھہ روددہ تم معبودان باطل سم ہنز جہہ پر سٹش کران چھوہ معبود

اتَّقُوا إِذَا امْتَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿۴۱﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿۴۲﴾ وَإِذَا الْمَأْتِيَةٌ بآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ


بُخُو سارنی خدائس کھوڑوئین بدن بندہ خیطرہ سیمشاہ منیدہ اِنَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا امْتَسَّهُمْ طَیْفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَكَّرُوا پز پانچہ سم خدائس کھوڑوون بندہ ہجہرہ بلہ تمین سہ شیطانہ سبہ و سوگ خیال کڈ اران بخو تم سہ ہجہرہ فوراً تمہ ساتھ خدایہ سبہس یادس سیت مشغول سپدان، اعوذ باللہ پران۔ خدایہ سبہ عظمت و جلال، ثواب و عذابک یاد کران۔ **فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ** نئس ہجہرہ فوراً ہمزہ اچھہ مؤرنہ یوان۔ تو پتہ ہجہرہ حقیقت تمین پیچہ ظاہر سپدان۔ سمہ سیت نہ تمین پیچہ خطرک کا نہ اثر بخو و اتان **وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ** شیطان ہندبای سم ہجہرہ سمین نہ خدایادے ہوان بخو تمین ہجہرہ تم شیطان گمراہی کن کھنکھرہ پکہ نادان۔ لہذا ہجہرہ تم گمراہی اندر منہ قسمہ کمی کران۔ **وَإِذَا الْمَأْتِيَةٌ بآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا** بلہ نہ ہجہرہ تمین نشہرہ ہمزہ خواہشہ مطابق کا نہ فرماہشی مجزہ پیش کران بخوہ۔ کیا زہ مجزہ پیش کر تک اختیار بخو خدایہ سی اتھہ سمہ ساتھ ہجہرہ و اتان تم ہر گاہ توبہ پیغمبر برحق ہجہرہ طلبہ کونہ انوہ توبہ ژار تمہ پتہ خیطرہ رتہ مجزہ سمہ سیت ہجہرہ پیغمبر آسن ثابت سپدہ ہا قُلْ **إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي** ہجہرہ فرمادو کہ کہ میان کوم ہجہرہ پتہ اختیار توبہ نشہرہ مجزہ پیش کران۔ میان اصلی کوم ہجہرہ کہ بو کرہ نہ بیروی مگر تمہ یہ مہ کن و تی سوزنہ یوان بخو میانس پروردگار سبہ طرفہ۔ نبوتہ خیطرہ بخو مجزہ آسن ضروری تمہ خیطرہ بخو ساروی مجزہ و اندرہ نوڈ مجزہ اوہہ قرآن مجید۔ یوہے بخو بے شمار دلیلہ ہجہرہس پروردگار سبہ طرفہ۔ امیک پر ہجہرہ سورہ شریفہ بخو اکھ اکھ دلیل، پر ہجہرہ آہہ کریمہ بخو اکھ اکھ دلیل۔ پر ہجہرہ آئس ہجہرہ امی منو کہ آہہ و اتان سمہ سو بخو بجای خود اکھ دلیل۔ تمی ہجہرہ ساری انسان سہ جن قرآن مجیدہ کس آگس آگس آہہ کر سمس سیت مقابلہ کرنے خیطرہ عاجز تمی

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۲﴾ وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَضَّرُّ عَاوَجًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

ہٹھو پر ہتھ آیہ کریمہ اکھ اکھ مجزاہ ہذا ابصاہم من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون تمیک نوڈ فائدہ نفع ہٹھو بالفعل تمن لوکن ہمدہ خیطرہ سم تھ مانان پڑھ کران ہجہ۔ جہدہ خیطرہ ہٹھو بوڈ ہدایت رحمت۔ مگر سو فائدہ نفع حاصل کرنے خیطرہ ہجہ کینہہ شرائط۔ تم گئے وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بلکہ یہ قرآن مجید پر نہ آسہ یوان تلمہ آسز و ہجہ سوکن دار تھ وارہ نوزان۔ بیہ آسز ہانہ ڈھوپہ کر تھ روزان تھ توہہ تمیک مجزاہ آسن تہ تجہ تعلیمات ہدایات فجرہ ترن۔ ہتھ توہہ مزید رحم ایہ کر نہ بیہ فرماو دہجہ پر ہتھ شخصس کہ اکی شخصہ وَاِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَضَّرُّ عَاوَجًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ پنہ نس پرور دگارہ سند یاد آس کران قرآن مجید پر نہ سیت، تسبیح و حلیل پر نہ سیت پنہ جابہ، آہستہ آہستہ، لوتہ لوتہ، عاجزی سان تہ خوفہ سان۔ بیہ آس ہڈہ ہڈہ پر نہ خوفہ کم کم آوازہ سیت پران عاجزی تہ خوفہ سان بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ جسکس تہ شامس تہ یعنی ہمیشہ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰثِلِينَ بیہ منہ آس غالبو آندرہ سم تمہہ ذکرہ تہ تراوان ہجہ یمن ہند حکم ہٹھو تہ یمہ سینہا ضروری ہجہ۔ حاصل ہٹھو کہ یاد خدا کر ہجہ وقتہ گوہہ عاجزی تہ خوف حاصل سپدن آوازہ ہمدہ اعتبارہ گوہہ نہ سینہا ہڈہ ہڈہ یاد خدا کران، نس لوکن باعث تشویش سپدہ۔ نہ گوہہ بالکل سستی سان ہدن سمہ سیت غفلت تہ نندر طاری سپدن نس نہ گوہہ زیادہ لوتہ ہدن نوسہ نہ پانس تہ فجرہ ترنس نہ زیادہ ہڈہ ہدن سمہ سیت حضورس اندر فتور ایس إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ بِشِكِّ سَمِ مَلَائِكَةٍ جَعِدُكَ خَدَايَ سِدِّ مُقَرَّبٍ بِنَدْوِ جَعِدُكَ لَا يَشْكُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْحَبُونَ لَهُ لِيَجْعَلُونَ تَمَّ تہ ہجہہ جہزہ عبادتہ نظہ تکبر کران۔ بلکہ ہجہہ جہزی عبادت کران بیہ جس پر ہتھ وقتہ پاک گزیران، زیوہ سیت یاد کران، بیہ جس سجدہ دون یعنی تانوسیت تہ تہو ندیاد کران۔ بیہ آیہ کریمہ پر نہ سیت تہ بوڑتہ سیت ہٹھو پرہ ونس تہ نوزہ زمین پیٹھ سجدہ منہ کھسان۔ تج و دلیل ہٹھو کہ اللہ تعالیٰ ہٹھو فرماوان کہ كَمَا لَقَدْ كُنَّا لِلْإِنسَانِ أَعْرَافًا

وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ ﴿۱۳۵﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ لَهُ بِالسُّجُودِ ﴿۱۳۶﴾

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ ساری قرآن مجید میں منزهتہ شہداء (۱۳۵) آیت کریمہ تم ہندو پر نہ سیت نہ نوزند سیت سجدہ تلاوت ہتھو منہ کھسان۔ امام شافعی صائس ہتھو سم پنداہ آیت کریمہ، سجدہ تلاوت ہتھو پر ہتھ مسلمان مردوں سے زنانہ پیٹھے نئس عاقل سے بالغ آسہ منہ کھسان۔ دیوانس سے نابالغس، یا عذروہ واجبہ زنانہ پیٹھے ہتھونہ یہ پر نہ سیت سے نوزند سیت منہ کھسان۔ سجدہ ک آیت کریمہ ہر گاہ روانہ یہ پر نہ تلہ ہتھو سجدہ منہ کھسان ہر گاہ سجدہ کڈت الگ الگ حروف پر نہ یں تلہ ہتھونہ منہ کھسان۔ سجدہ ک کانہ آیت کریمہ ہر گاہ بے وضو پر نہ یہ سجدہ ہتھونہ کانہ خرچ۔ مگر سجدہ گڑھ نہ بے وضو دین۔ بلکہ گڑھ یہ کتبہ وقتہ سمہ ساتھ وضو آسہ سجدہ دین۔ ہر گاہ نماز اندر آیت سجدہ پر نہ یہ سجدہ گڑھ آتی ساتھ امامہ سجدہ سے مقتدین ہند سے اوکڑن۔ سجدہ تلاوت ادا کر تک شرط ہتھو شہ ۶ چیز۔ طہارت ہدن آسن، طہارت لباس آسن۔ طہارت جای آسن، استقبال قبلہ آسن، ستر عورت آسن یہ سجدہ تلاوت نیت کرن، سم گے شہ چیز سم نماز ہندہ خیطرہ ضروری ہتھو۔ اتھ پاتھ کانہ نماز ستموشیہ چیز دورای درست ہتھو اتھ پاتھ ہتھونہ سجدہ تلاوت سے ستموشیہ چیز دورای درست۔



سُورَةُ الْأَنْفَالِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا
 اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ
 قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ جہادس اندر نمس مال د شمس نعرہ حاصل کرنے پر تھے پھر مال غنیمت وہاں۔
 بیا کہ تاؤ پھو تمیک نفل تمھوی جمع گوانفال۔ چونکہ پتھ سورہ شریفس منز پھر جہادک کہ مال غنیمتک
 احکام امی مناسبہ آؤ پتھ ساری سورہ شریفس سورہ انفال تاؤ تھاؤ۔ یہ حکم آو بیان کرنے تھے وقتہ سمیہ
 وقتہ جنگ بدرس منز صحابہ صحبن اندر جوان بھدن کہ ہڈین اندر اختلاف سپد۔ جو انو ڈوپ کہ مال
 غنیمتک حقدار پھر کسی نو ڈوپ صاحبو ڈوپ چو پھر اسہ بہ آس جہد مددگار، لہذا اگر پھر اسہ بہ امہ منزہ حصہ
 تزان، یو ہے اختلاف کور تمہو پیش در خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمی ساتہ سپد یہ آہ کریمہ
 نازل یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ اللہ تعالیٰ پھو فرماؤں پر ٹھکان پھر توبہ صحابہ صیب یار سول اللہ مال
 غنیمتک تقسیمک حکم قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ جہہ فرماؤں کہ کہ مال غنیمت پھو خدایہ سند کپازہ فتح و
 نصرت عطا کرہ وان پھو سوی۔ بیہ تھہدس پیغمبرہ سند یہندہ واسطہ اللہ تعالیٰ احکام جاری کران پھو
 فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ نمس کھو ڈو خدائس یہ کرو باہمی تعلقاتن اصلاح۔ پانہ وان نہ تھاؤ
 بغض و حسد وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حکم مانو خدایہ سند کہ تھہدس پیغمبرہ سند ہر گاہ تھہ
 یا ایمان پھوہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ با ایمان گئے نہ مگر تمہی سمن نعرہ پلہ
 ذکر کرنے آہ خدایہ سزا، تہز، عظمت زیر نظر تھہ چہ نشان تھہ دل وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۲۰۰ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۲۰۱ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
 دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۲۰۲ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۲۰۳ كَمَا
 أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 لَكُرْهُونَ ۲۰۴ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ
 إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۲۰۵ وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى

ایماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بیہ بلکہ پر نہ یوان بھجہ تمہن پینہ خدایہ سہ آیات۔ نران تہ مضبوط
 بھجہ سپہ ان توہند ایمان، بیہ بھجہ تم پندہ کسی پروردگار س پینہ اعتماد تہ توکل کران الَّذِينَ يُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تمہ ایمان گئے تھے تم قاسم تہ برپا بھجہ تھوان نماز۔ بیہ کس مال کسی
 تمہن عطا کور تمہہ منزہ بھجہ خرچ کران خدایہ سزہ وہ تہ اندر اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا تھے کیا گئے ہر پانچ
 با ایمان لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۲۰۲ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ جہندی خیطرہ بھجہ جہندس پروردگار س نہجہ
 تھہہ درجہہ بیہ نوڈ مغفرت تہ عزتک رزق کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ یہند مال غنیمتس
 منزہ اختلاف کران بیہ نہ جہزہ مرضی مطابق یہ تقسیم سون بھجہ مصلحتہ موجب۔ بھجہ پانچ توبہ کڈوہ
 پن پروردگار س پنہ گھرہ ہستی تہ شرہ منزہ اکس خاص غنیمتس پینہ یعنی مال غنیمتس اندر ہنزہ مرضی
 موافق تقسیم نہ سپہ نس منزہ بھجہ مصلحت۔ بھجہ پانچ جہندہ مدینہ شریفہ منزہ میدان ہدرس کن کڈ نس
 اندر مصلحت آس وَأَنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ در حالیکہ اکھ جماعتھہ آس با ایمانوا اندرہ جہندس
 تمہہ وقتہ کس مدینہ شریفہ اندرہ نیر نس ناپسند کران يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ بحث و قضیہ آس
 کران تم توبہ سیت مشورہ پانچہ پڑہ کتھہ منزہ تمہہ ظاہر سپہ نہ پتہ۔ بے سلاح و سامان جھگڑس نیران
 قریشن سیت جنگ کران تمہہ با سلاح و سامان آس اوس تمہن غیبت مشکل لہندہ یوان كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى
 الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ زن تم پکناوند آس یوان مارنہ خیطرہ اچھن ڈیشمان۔ یعنی تم آس مر تکب

حَكِيمٌ ۱۰ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اٰمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ
 مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ
 الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰی قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهٖ الْاَقْدَامَ ۱۱ اِذْ
 يُوحٰى رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنۡى مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 سَالِقِيْنَ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ قٰضِرِيْنَ فَوْقَ
 الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنٰنٍ ۱۲ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

دول اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اٰمَنَةً مِّنْهُ یہ پاووشیخس سووقت یہ وقتہ اللہ تعالیٰ ہن توہہ بندہ ہنزمای
 وچوہہ پینہ طرفہ۔ توہہ پورہ سکون = قرار دینہ خیطرہ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ
 یہ پاووشیخس تمہہ ہر دتھہ سمہہ سائہ اوسن توہہ پینہ آسماہہ طرفہ زود ترودست۔ تھہ تھہہ تمہہ زودہ سیت
 پاک کرہ بے غسل کرن غسل تہ بے طہارت کرن طہارت وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ یہ
 تھہ سو دور کرہ توہہ ہنہ شیطانہ سیدہ وسوچ ناپاکی فَلِيَرْبِطَ عَلٰی قُلُوبِكُمْ یہ تھہ تھی سیت تھہہ دل
 مضبوط کرہ وَيُثَبِّتَ بِهٖ الْاَقْدَامَ یہ تھہ تمہہ زود پینہ سیت تھہہ کھور دارہ در راوہ۔ کیا زہ سیکھہ چھہ
 زود پینہ سیت ڈران۔ میڑہ چھہ زود پینہ سیت زب دو تھان اِذْ يُوحٰى رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنۡى مَعَكُمْ یہ
 پاووشو وقت تھہہ سمہہ سائہ تھہہ پرور دگار حکم سوزان اوس تھن ملا تھن کن سم تھہہ مددہ خیطرہ
 سوزنہ آست آس۔ اے ملائکو و سو میان با ایمان بندن ہنہہ مددہ خیطرہ۔ توہہ ہتھوس توہہ سیت
 مددگار فَثَبَّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اے ملائکوہہ مددگار زلتھہ تھادو تھہہ مضبوط با ایمان ہنہہ دل سَالِقِيْنَ فِىْ
 قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ قٰضِرِيْنَ بوترادہ کافرن ہندین دلن اندر خوف تہ وحشت قٰضِرِيْنَ فَوْقَ
 الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنٰنٍ ہن شمشیرہ تھہہ دیکھہ گردن پینہ یہ تھہہ تانہ تانہ ذٰلِكَ
 بِاَنَّهُمْ سَالِقِيْنَ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا تھہہ تھہہ تھن کی سببہ کہ تھو کر مخالفت خدایہ سزہہ تھہہہ سزہہ سزہہ
 وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ یہ ہن اکھاہ خدایہ سزہہ تھہہہ سزہہ سزہہ سزہہ

شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۳﴾ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ
 عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَلْقَيْتُمُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا وَازْجَفَّوْا فَلَئِنَّهُمْ أَكْذَابٌ ﴿۱۵﴾ وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ
 دُبُرَةٌ إِلَّا مَنَحَرَفًا لِقِتَالٍ أَوْ مَنَحَرَفًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ
 بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶﴾
 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ

مخالفت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سخت عذابس مگر قتل۔ ذلکم فذوقوا و ان للکفرین عذاب النار
 ہمہ عذابک مزہ ڈھونڈو جبہ یہ زانو یہ کھد کھد کافرن ہمدہ خیطرہ ہتھو ہار جہنمک عذاب آخرتس اندر رسد
 دنیاہ کہ عذاب علاوہ یا ایہا الذین امنوا اذ القىتم الذین کفروا و اذ جفا ای با ایمانویہ جبہ کافرن
 سیت مقابلہ کرید لکو پتھر زینس پیئدہ دستہ پیادہ فوجی ہتھیہ فلا تلووہم الا کذبا نس منہ پھر و تمن کن
 نشت تمن پان بچاوند خیطرہ و من یولہم یومئذ دبرۃ نس اکھاہ امہ ذوبہ کافرن کن فخر پھر تھہ
 ڈکن ہپہ الا متحرفا لقتال او متحرفا الی فتنۃ گمرے نشت پھر ن تمن کن جھجھ علیہ مصلحتہ خیطرہ یا
 امدادی فوجس سیت شامل سپندہ خیطرہ علیہ چھوند کا نہ حرج۔ نہ نس ڈکن خیطرہ تمن کن نشت پھر
 فقد باء بغضب من اللہ نس یقین سو آو خدیہ سز بڈ بزاری ہتھہ۔ و ماوہ جھنم جہنم جای
 جھہ ہار جھنم و بئس المصیر سبھاہ جھہ جاری جھہ سو جھنم فلم تقتلواہم و لکن اللہ قتلہم ای
 مسلمانو توہہ مار دکھ نہ تم کافر جنگ بڈ رس منز۔ بلکہ مار تم اللہ تعالیٰ ان پانہ و ما رمیت اذ رمیت و
 لکن اللہ ذکی اے پیغمبر برحق جبہ ہمزہ پھچو نہ میوہ و سو تھہ علیہ بظاہر نسی چھوہ بلکہ پھچ سو پانہ اللہ

وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّمَّ تَسْمِعُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَا

تعالیٰ اُن۔ یہ کور اللہ تعالیٰ اُن کہ مجھ کافر مغلوب کرو۔ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءً حَسَنًا یہ مجھ اللہ تعالیٰ باایمان پندہ طرفہ رست انعام و احسان عطا کرو۔ یعنی کوم کر ہیقتا تم پانہ مگر سموی کوم کرن مسلمان ہندو یا تھو یا نبی کریم سیدہ دست مبارکہ مجھ تم امیک ثواب دہ اجریہ نو ذانعام حاصل کرن اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پڑ پانہ اللہ تعالیٰ چھو سخن باایمان ہمزہ سارے مجھ نوزہ ون یہ یہہہ اعمال و افعال پورہ چھہہ اَنْ ذَلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ کہ گویہ یہ مجھ۔ دویم مجھ چھہہ اللہ تعالیٰ اُس آس کافر ن ہمزہ ساری تدبیر سنت دہ بیکار کرن اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ای کافر دہر گاہ مجھہ فیصلہ ژحانڈان چھوہ پیشک سو فیصلہ سپد ظاہر۔ مسلمان سز قح حاصل۔ سمہ سمیت معلوم سپد کہ تھہہہ دین چھو پوز دین۔ تمی دینچ شوبہ بیروی کرن اِنْ تَنْتَهُوا فهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاَنْ ہر گاہ مجھہ شرکہ ہمزہ پتھہ روز مجھ مسلمان سپد دہہ چھو تھہہہہ خطیرہ سیشاہ بہتر اِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ہر گاہ مجھہ دوبارہ یہہہ شرارت کرو تلمہ چھہہہ اس دہ دوبارہ اسلامس دہ مسلمان مدد کرنہ خطیرہ دہ کافر ن شہکت دنہ خطیرہ تیار۔ توبہہ مہ روزن خیال کہہ آئندہ کرو اس امہہ خودہ بد لشکر جمع یہہہ تھاوزہ یقین کہہ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ہر گز دہہ نہ توبہہ کا نہہ فایدہ بد جماعت تھہہہہ اگر چہہہ آستن سو سیشاہ زیادہ تعدا دہہ کن۔ یہہہ چھہہہ حقیقت کہہ اللہ تعالیٰ چھو باایمان سمیت پڑ چھہہہ وقتہ مددگار یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّمَّ تَسْمِعُونَ ای باایمانو فرمانبر داری

تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۳۱﴾ إِنَّ
 شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا
 يَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ
 أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

گرد خدایہ سزبیہ جہدس پنخبر سزبیہ منہ کمر و جہدین احکامن قعیل کرنے بھہ روگردانی۔ در حالیکہ جہد
 چھوہ خدایہ سند کلام، پنخبر سند و عطا نوزان۔ تی جھوہ اعتقاد نوزان۔ پنخہ پانہ کمر و خمن حکمن پنخہ عمل
 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ جہد منہ آہو تین لوکن ہی سم نہوہ سمیت
 وہان جہد نوزاسہ، مگر بوزان جہد کہہہ یعنی عمل جہد تھہ پنخہ کران کہہہ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ
 الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ہز پانہ ساروی جاندار و اندرہ جہد بدتر اللہ تعالیٰ اس بھہ
 تجے ہم پرتھہ نوزندہ بھہ زہ آسن، پرتھہ وندہ بھہ کل آسن۔ سمن نہ پرتھہ منہ قسمہ فکرہ تران آسہ۔ پتھہ
 گے تم سم اعتقادہ باوجود عملہ اندر کوتاہی کرن یعنی مسلمان آتھہ کرن قعیل احکام کر کس اندر سستی تم
 گئے نہ بدتر مگر بدتر تھہ گئے ضرور تھن ہزہ تمہہ بھہ پتھہ روزان وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ
 وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ہہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ تھن کافرن منز زانہ ہا کانسہ خیر و ہر کتھاہ تلہ
 شاید نوزہ نادہ تھہ یعنی توفیق دیہہ تھہ نوزنگ۔ تو پتہ ہر گاہ نوزہ نادہ تھہ تہ، تو پتہ تھہ تھن نہ روگردانی
 کرہ تھن تم ہزہ بھہ تھہ بھر تھہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
 يُحْيِيكُمْ ای با ایمانوا سہہ کتھاہ کور تھوہ سمہ برو تھہ کہ قعیل احکام تہ اطاعت و فرمانبرداری کرو،
 تہ کر آسہ جہدی فایدہ خطیرہ تمہہ سمیت ہنہ تھنز حیات ابدی۔ لہذا لایہ حکم خدایہ سند ہہ پنخبر خدایہ سند بلہ
 نادہہ توہہ سونو پنخبر خداتھہ کامہ کن بلاسہ توہہ زندہ تھاوہ یعنی دینس کن۔ سمہ سمیت دائمی زندگی میسر
 سہدان چھہ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ہہ زانو کھہ تھہ کہ اللہ تعالیٰ جھو ٹھور سہدان

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَأَتَقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۵﴾
 وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ
 أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ فَاوْكُمُ وَأَيْدِيكُمْ بِضُرِّهِ وَرَزَقَكُمْ

شخص سے نہیں جس دس منز دویو طریقوں۔ کہ گویا ایمانہ سبب دس ہتھونہ اطاعت کہہ برکتہ کفر و مصیبت
 کن ہوان۔ بیا کہ گویا کافرہ سبب دس ہتھونہ مخالفتہ شامتہ نہ نحوستہ ایمان و اطاعت کن کا نہ آتھہ و تھہ
 ودان۔ اسی اندرہ سہد معلوم طاعت و فرمانبرداری پیٹھہ مدلومت نہ ڈاڈ کران ہتھہ سیٹھہ مفیدہ۔ مخالفتہ نہ
 تا فرمانی پیٹھہ ڈاڈ کران ہتھہ سینشاہ منفر و آتھہ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یہ زانو کہ تھہ کہ تھہ ساری ایوٹس معبود
 بر ہتھہ نشہ سو نہر نہ۔ سوی دیہ فرمانبرداری زت جزا تا فرمان سخت سزا۔ ہتھہ پانٹھہ توبہہ پیٹھہ چنہ
 اصلاحہ خیطرہ فرمانبرداری واجب ہتھہ ہتھہ پانٹھہ ہتھہ واجب توبہہ پیٹھہ بین لوکن ہند اصلاح کرن۔ تھن
 منز فرمانبرداری ہند شوق پیدہ کرن۔ آتھہ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپدئس زیوہ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپدئس
 تعلقات ژنہ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپدئس یا صرف دس اندر نفرت کرنہ سیت۔ یہ گویا ہم درجہ ایمانک
 ۔ ورنہ ئس مدہنت کرہ یعنی گناہ و ہتھہ توبہہ کرنہ ہتھہ تردید تلہ ہتھہ تھہ گنہک وبال نہ سزا ئس شخص
 تہ۔ بلہ حقیقت یہ ہتھہ وَأَتَقُوا فِتْنَةَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لہذا کھوڑو ہتھہ
 بلا یہ بلا نہ خاص تمنی یا ڈولہ ایہ۔ ہتھہ توبہہ اندر ظلم و تا فرمانی کر بلکہ سپدئس تھہ منز ساری گرفتار
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ زانو کہ اللہ تعالیٰ سہد عذاب ہتھہ سینشاہ سخت وادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ
 قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ یہ پاوڈر تھس بلہ تھہ ہجر تہ برو تھہ کم تہ کزور آسودہ سہد شریئس اندر
 تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ تھہ آسودہ کہ تھہہ مدہوہ لو کہہ فَاوْكُمُ وَأَيْدِيكُمْ بِضُرِّهِ تھہ حاکس اندر ڈر
 وہ ہتھن جای خدائسن مدینہ شریئس اندر۔ یہ کرنہ تا سید چنہ مددہ سیت و رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳۹﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
 وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيينَ ﴿۴۰﴾ وَإِذْ اتَّكَلَى عَلَيْهِمْ اٰیْتُنَا قَالُوا
 قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا
 اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۴۱﴾ وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا
 هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ

عمر اس اندر ممکن ہے کہ وہ اذ یمکریک الذین کفروا ایثبتوک او یقتلوک او یخرجوک یہ پاور ٹھیس یہ
 کافر توبہ نہ ملے تھیں تدبیر = مشورہ کران آس دار اندوس اندر سوچان آس تہجدہ خیطرہ قید کرنے خیطرہ یا
 قتل کرنے خیطرہ۔ یا جلا وطن کرنے خیطرہ مختلف تدابیر و یمکرون و یمکوللہ تم آس ہے خیالہ تدبیر
 سوچان اللہ تعالیٰ = اوس بن تدابیر کران تہجدہ تدابیر باطل و بیکار کرنے خیطرہ واللہ خیر المکریین
 اللہ تعالیٰ جھو بہتر = زت مضبوط تدبیر کرہ ان۔ چنانچہ تہجدہ ساری تدبیر سپہ ناکام۔ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم و اتوا اللہ تعالیٰ ان تمہی کافرن برو تمہ کن پکناو تمہ وارہ کارہ بصحت و سلامتی مدینہ منورہ منز
 واذ اتکلی علیہم ایتنا قالوا قد سمعنا لوفشاء لقلنا مثل هذا یہ علیہ پر نہ آس یوان تمہ
 کافرن برو تمہ عنہ سان آیات۔ و ان آس تم بیک آسہ نوزیہ کلام یہ جھونہ کانہ مجزہ۔ ہر گاہ اس ارادہ
 کروا آس = جھونہ کلام پیش کر تمہ ان ہذا آساطیر الاولین یہ جھونہ نہ = مگر بے دلیل
 تمہ پونہ۔ ہمہ تمہ برو تمہین بوجہ نقل کرنے آسہ جہ واذ قالوا اللہم ان کان ہذا هو الحق من
 عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او اثبتنا بعداب الیوم آسہ خود جہ قابل ذکر یہ تمہ ہمہ ہم
 آس و ان کہ خدایا ہر گاہ یہ قرآن مجید پر پانچ جھو چانی طرفہ تلہ تر لو تمہ نہ مانہ خیطرہ آسہ پیچہ آسماہ
 طرفہ عنہ زود۔ و اتوا آسہ لہ کڈر عذاب۔ یہ آس نہ تمہ خبر کہ خدایہ سزنا کا میں اندر جہ خاص
 منسلوہ آسان عذاب نہ کرہ کس منز جہ کچھ نہ وجوہ آسان تمہ وجوہن = موانع ہند بیان جھو آسہ پتہ۔

أَوِائْتِنَا بِعَذَابِ الْيَوْمِ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
 فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۳۷﴾
 وَمَا لَهُمُ الْأَلِيعَدِّ بِهِمْ اللَّهُ وَهُمْ يُصَدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ
 وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ
 عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ
 بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللَّهُ تَعَالَى كَرِهَ أَنْ يَرَى تَمِيمَ عَذَابِ نَجْدٍ تَمِيمٌ مِمَّنْ مَوْجُودٌ آسَمِيسُ
 حَالِسٌ أَمْرٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِهٖ تَحْرِيكٌ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَمِيمٌ عَذَابِ نَجْدٍ
 حَالِسٌ أَمْرٌ تَمِيمٌ آسَمِيسُ مَعْنَى دَقَّةٍ مَكْرَمَةٍ زَمْرَةٍ مَطْلُوقٍ مَخْفَرَةٍ مَكَّانٍ - طَوَافٍ كَرَامٍ كَرَامٍ "غَفَرَكَ"
 بِرَأْسِ وَمَا لَهُمُ إِلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ تَمِيمٌ كِيَاةٍ خُصُوصِيَّةٍ آسَمِيسُ كَرِهَ أَنْ يَرَى تَمِيمَ عَذَابِ نَجْدٍ وَهُمْ يُصَدُّونَ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَالِيسٌ تَمِيمٌ بِذَمَانَةٍ كَرَامٍ لَوْ كُنَّ تَمِيمٌ بِرَأْسِ آسَمِيسُ رَمَانٍ مَسْجِدِ حَرَامٍ
 نَجْدٍ إِنْ لَيْسَ - وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ حَالِيسٌ آسَمِيسُ تَمِيمٌ لَوْ كُنَّ مَسْجِدِهِ مَعْنَى تَمِيمٌ - كَيْ قَالِيَتَمِيمٌ
 آسَمِيسُ - مَعْنَى طَرِيقَةٍ أَوْ سَبِيلٍ تَمِيمٌ كَرَامٍ حَقٌّ إِنْ أَوْلِيَاءُؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ تَمِيمٌ اخْتِيَارَهُ دَوَالٍ تَمِيمٌ
 آسَمِيسُ قَالِيَتَمِيمٌ مَعْنَى مَكْرٍ بِرَأْسِ كَرَامٍ تَمِيمٌ كَرَامٍ بِأَيْمَانٍ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَكِنْ تَمِيمٌ أَمْرٌ
 وَتَصَدِيَةً بِهٖ آسَمِيسُ نَمَازٍ تَمِيمٌ خَانَ كَعْبِيسُ بِهٖ مَكْرٌ آسَمِيسُ شَرِيحٍ دَائِمٍ - بِهٖ آسَمِيسُ ذُرُوعٍ بِ
 كَرَامٍ تَمِيمٌ مَعْنَى حَرَامٍ آسَمِيسُ نَمَازٍ تَمِيمٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ لِهَذَا تَمِيمٌ عَذَابِ
 تَمِيمٌ مَكْرٌ هَذَا لَيْسَ تَمِيمٌ كَرَامٍ آسَمِيسُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ
تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُجْشَرُونَ ﴿٦٧﴾ لِيَبَيِّنَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ
يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا
فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ يَدْتَهُمْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَآ قَد سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا

ہذا پانچ قسم کا فر ہے۔ تم، جہد مال، پن خرچ کر ان لوگوں میں خدا پر سزا دینے کے لئے ہتھیاروں کی خطرہ۔ ہر ایک چیز
بدنی عبادت ہے۔ گنہگار ہر مالی عبادت فسینفقونہا ثم تکون علیہم حسرہ ثم یغلبون آئندہ
روزانہ تم لمحہ خطرہ مال خرچ کر ان۔ چوں کہ سپردہ سوا مال جہدہ خطرہ حسرت سبب۔ چوں کہ سپدن
مغلوب ہے ذلیل۔ یہ گو کہ دنیا تک عذاب۔ آخر تک عذاب گو کہ الگ والذین کفروا الی جہنم
یجشرون۔ تم لوگو کو کفر کور تم ساری سن سو ہر اونہ قیامتک دودہ جہنم میں سوزنہ خطرہ لیبیز اللہ
الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ الگ کرے ناپاک لوگوں پاک لوگوں سے۔ ویجعل الخبیث بعضہ
علی بعض۔ یہ دیکر برتھ ناپاک لوگوں اکہ اکس پیٹھ فیرکبہ جمیعاً فیجعلہ فی جہنم یعنی اکہ
اکس سیت جہد جہد تھاوتھ کھارہ تمن ساری اکہ ڈیرا۔ تو پتہ دیکھ یکہ ڈتہ برتھ جہنم میں اولیک
ہم الخسرون سے لو کہہ کیا گئے تاوان زدوتھ تاوان زدگی نہایتی جھونہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَدْتَهُمْ
يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَد سَلَفَ فرمادیا کہ جبہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرن تمن بروظن مضمون
لو ذتھ کچھند اثر سپدنت آسہ کبہ ہر گاہ تم کفر ہے شر کہ نشہ پتھ روزتھ مسلمان سپدن تمن لیہ بروظن
ساری نکشائش کرنہ وَاِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُذُكُ الْاَوَّلِينَ ہر گاہ دوبارہ یہ کفر سے کرن
بدستور روزانہ کفر سی پیٹھ۔ نئں جہد بروظن کافرن ہنزدروش گذرے موی۔ تمبو کیاہ کور۔ تمن کیاہ
جود وَاَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ جبہ کمر دیارسول اللہ تمن کافرن سیت جہاد۔ ہر گاہ تم کفر سی

فَقَدْ مَضَتْ سُدَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۹﴾ وَإِن تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا
أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۴۰﴾
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ

پہلے روز ان ۱۰ اتان پر شرک و کفر کے لیے سپرد ختم۔ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ پر تمہے طرفہ پہلے
دین خدایہ سہوی فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو پتہ ہر گاہ تم پتہ روز ان کفر و نعرہ
اللہ تعالیٰ بخو جنزہ سارے کامیہ و چھان وَإِن تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ
وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ہر گاہ تم روگردانی کرن۔ خبہ زوزو مضبوط۔ خدایہ سند ناو پتہ کفر و تہجد مقابلہ۔ خبہ
زانو ہز پانہ کہ اللہ تعالیٰ بخو تہجد رفیق۔ سوی بخو زت رفیق تہ زت مددگار تہجد وَاعْلَمُوا أَنَّمَا
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ بیہ زانو یہ تہجد وارہ کبر تخمین یہ کبیرہ حاہ تو پتہ کافران بھہ مال غنمت حاصل کروئس بخو تمیک
حکم۔ تہ سارسی گوخن پانہ حصہ کرنہ سن۔ تو پتہ گوخن تہ پانہ مس حصس بیہ پانہ حصہ کرنہ سن۔
تمہ منزہ پانہ تم حصہ خدائس تہ تہجد س پیغمبرہ سیدہ خیطرہ تھلان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن
نیاہہ خدایہ سند حصہ وصول تو پتہ کرن تم خرچ تمہ منزہ پتہ نین ذاتی اخراجاتن پیٹہ۔ بیہ پتہ نین اہل
قرآنن پیٹہ سہوا ابتداء پیٹہ تم نصرت و مدد کور۔ نبی ہاشم، نبی مطلبہ اندرہ تہمن زکوٰۃ رن بخو حرام،
بیہ تہمن تہ حاجت مند مسلمانن پیٹہ۔ بیہ مسافران پیٹہ۔ تمہ پتہ تم ژور حصہ مال غنمتک باقی بخو تم سن

الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِيْنَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾
 إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَ
 الرِّكْبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي
 الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ
 مَنْ هَلَكَ عَنِ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنِ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ

الشکرہ پینہ تقسیم کرنے۔ سوارس زہ جہنہ، پھر یکہ ولس اکھ جہ۔ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰی
 عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِيْنَ ہر گاہ تو بہ پڑھ کر وہ خدا ناس۔ یہ کور وہ تاس پینہ یقین۔ یہ
 تھ پینہ یہ اسہ نازل کور پنہ لیس بندہ خاص، حضرت محمد س پینہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دوہہ۔ یعنی
 جنگ بدر کہ دوہہ۔ سمہ دوہہ زہ جماڑ با ایمان نہ کافر، آورہ ہار مقابل سپہ۔ یوم الفرقانہ اندر ہجو مڑ او
 جنگ بدر ک دوہ۔ سمہ دوہہ ہوس نہ ہوس فرق آہ کرہ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللہ تعالیٰ ہجو
 پر ہجو چیز س پینہ پور قدر نہ دول إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى سمہ دوہہ
 تہہ آسوہ اے با ایمانو میدان جھہ کس بنارس پینہ ناس مدینہ شریفس نزدیک اوس۔ کافر آس میدان
 کس تھہ بنارس پینہ ناس مدینہ شریفہ نشہ دور اوس۔ وَالرِّكْبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اَبُو سَفِيَانَ سُد قائلہ
 اوس تو بہ نوئمہ طرفہ سمندرہ کس بنارس قریب پکان وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ہر گاہ
 تہہ فریقین پانہ وان جنگ کرہ خیطرہ کانسہ وقاہ مقرر کرہ ہو۔ تھہ و تھہ منز گومہ ہوہ تو بہ اختلاف نہ
 تھہ و پیش ممکن اوس کس چہ کم سامان آسہ نوکھہ ملکہ ہوہ تہہ و تھہ پینہ وَلَكِنْ مگر اللہ تعالیٰ بن سو
 نبر اوہ تہہ اورہ ہار وقت مقرر کرہ وراى لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تھہ اللہ تعالیٰ جاری کرہ
 سُو حُكْمِ نَسِ تھس کزان اوس یعنی عزت اسلام شکست کفر لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنِ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ
 عَنِ بَيِّنَةٍ یہ تدبیر کمر اللہ تعالیٰ ان تھہ یہ نون قدرت و چمت ہلاک گومہ ون یہ ہلاک گومہ دلیل
 و چمت۔ زندہ روزہ ناس زندہ روزہ دلیل و چمت۔ یعنی پر تھہ اکس سپہ معلوم قدرت خدا تھہ پانہ

اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا
 وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفِشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ
 وَلَٰكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۳﴾ وَ
 إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّيِّبَاتُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ
 فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ
 تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُيِّمْتُمْ فِتْنَةٌ

کرم عن یاری مسلمان۔ سازو سامانہ در ای کمر تھے فتح عطا و اِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ ہے جتنی بھک اللہ تعالیٰ سوری تُوڑے وان، سو زوی زان وان اِذْ يُرِيكُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا سو وقت یہ ہے جتنی یاد کرس قابلِ بلیہ اللہ تعالیٰ اُن ہاودہ توبہ کافر ان ہنز لشکر خوئس منز کم وَلَوْ اَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفِشَلْتُمْ ہر گاہ توبہ ہاودہ ہودہ سو لشکر زیادہ تعدا دہ کن تلہ سپدہ ہونہہ کم ہمت وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ یہ کہہ ہونہہ ضرور اختلاف جہاد کرس اندر وَلَٰكِنَّ اللّٰهُ سَلَّمَ لیکن اللہ تعالیٰ اُن تھاودہ تہوود شوی چیز دو نہیہ سلامت۔ نہ کمر وہ توبہ اختلاف نہ سپدہ نہہہ کم ہمت اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہر پانہہ سو ہونہہ روزان وان دکن ہنزہ تہہ۔ وَ اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ التَّيِّبَاتُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ یہ ہاودہ ٹھیس بلیہ اللہ تعالیٰ اُن ہنز ان نظر ان اندر ان تم کی سہہ ساتہ توبہہ مقابلہ ہو توبہ کزن۔ ہنز ان نظر ان منز یہ ایشوہ نہہہ کمی ہتھ جانمیں مقابلک جذبہ مضبوط سپدہ۔ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا یہ ہے کور اللہ تعالیٰ اُن ہتھ سو پوزہ کہہ تھہ کھمس نئس کھمس بہر حال کزن اوس۔ عزت اسلام۔ شکست کفر وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ خدایہ ہی اُن ہتھ سارے کامہ رجوع کران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُيِّمْتُمْ فِتْنَةٌ فَاتَّبِعُوا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اکی ہا ایمانویہ نہہہ جہادس منز سمکھان آہو کافر ان ہندس نئہہ جماعتس بیت۔ تہہ ساتہ گروہہ لیکن چیز ان ہند پوزہ خیال تھان آہہ گروہہ ثابت قدم روزن، ڈکن گروہہ نہ۔ یہ گروہہ سینھایاود خد اکزن ہتھ نہہہ کامیاب سپدہ۔ یاد خد اسمیت

فَأَثْبِتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
 رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۶﴾ وَلَا تَكُونُوا
 كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَ
 يُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴿۳۷﴾
 وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لِغَالِبٍ لَكُمْ
 الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفِتْنَةِ

بمخول قوی سپدان و اطیعوا الله ورسوله بی گناهی خدایه سزیه تمجیدس پیغمبره سز فرمانبرداری
 کرن کانه کانه گناهی نه خلاف شرع سپدان وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ بی گناهی نه پانه
 وان هر ه بر نه قفسیه کرن تمه سیت گناهی بهت تمت نه سنت - بی دو حقه تمجید رعب و داب لو کنی همزن
 نظر ن اندر و اصبروا بی کمر و صبر ان الله مع الصابرين پز پانهم الله تعالی بمخو صبر کرده و نمین
 سیت سیت - تمسند سیت آسوی بمخو نصر تک باعث وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
 بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ بی مه آسونه تمین کافر لو کن ای هم در ای آتمه جنگس منز پنه نیوشهر و منز
 تکبر و غروره سان - بی لو کن تمیکان تمیکان وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بی در ای لو که بمخو رفته خطره
 خدایه سزیه دینه نشه - وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ الله تعالی بمخو همزن ساری کائن احاطه کرده ان و
 إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ بی کمر و سودده یاد همه دونه شیطان تمین کافرن اندر و سوسجه ذریعه
 زینت دیت و قَالَ لِغَالِبٍ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ دونه بمخو از نه شه نه توبه کانه بی لو کو اندره و إِنِّي
 جَارٌ لَكُمْ نیوشهرس پانه تمجید مدگار فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفِتْنَةِ نَكَّصَ عَلَى عَقَبَيْهِ اوده همه سانه

نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بريءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أرى مَا لَا تَرُونَ
 إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۳۸﴾ إِذْ يَقُولُ
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهُوا إِذِ دِينِهِمْ
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۹﴾ وَ
 كَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ
 وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۴۰﴾ ذَلِكَ

دو شلوے جماڑ (با ایمان نہ کافر نہ ہنر) کہہ کہس مقابلہ لبر شیطانس آؤ نوزنہ ملائکین ہند نازل سپدان۔ نیچھے
 ڈول سوہت پوٹے وَقَالَ إِنِّي بريءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أرى مَا لَا تَرُونَ فندو، فریبو نہ آپڑیو وعدو سیت ناو واللہ
 لومکھ وپنہ مہ ہتھونہ توہہ سیت کانہ واسطہ۔ نو ہتھوس وچھان تی یہ نہ توہہ نوزنہ پوان ہتھو رتی
 أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ نو ہتھوس کھوٹان خدائیس۔ اللہ تعالیٰ ہتھو سخت عذاب کرہ
 وان۔ خطرہ ہتھومہ کہ ہتھ جتھس اندر مایہ کو تھس کانہ ڈنڈاؤ۔ عمرہ خیطرہ گروہہ کو تھہ بر ہم إِذْ يَقُولُ
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهُوا إِذِ دِينِهِمْ سمہ دوہنہ منافق بیہ تم لو کہ یہندس
 ولن اندر شجج بیماری آس ونان آس مغزور ہتھہ کرمت سم لو کہ یعنی مسلمان دین پن۔ ہلاکتس منزہتھہ
 زورہ پن پان ترلوان۔ تعدادہ کن کم آہتھ۔ سامانہ کن کم آہتھ ہتھہ ہم مسلح فوجس سیت مقابلہ کرنہ
 خیطرہ آمادہ سپدان وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ ہتھو فرماوان یمن
 ہتھو پور توکل نہ اعتماد پنہ نس خدائیس پیئہ۔ لہذائیس اکھاہ معبود بر حقس پیئہ توکل کرہ تمسند دل سپدہ
 ضرور مضبوط نہ محکم۔ کیا زہ تھند مددگار ہتھو اللہ تعالیٰ بیشک سو چھوز بردست حمدہ دول۔ وَكَوْتَرَى
 إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ہر گاہ تھہہ وچھو تھہہ سائک حال
 سمہ سائہ تھن کافر ن قبض روح کران آس ملائک، توہہ پیہ ہانوزنہ عجیب واقعہ۔ تم ملک آس سمہ
 سائہ نازہ ویو ڈلمسو سیت کافر نہندس تھن نہ تھرن پیئہ چوب دوان۔ گویا لانھی چارج کران

بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝
 كَذَابٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
 فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ
 يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ كَذَابٍ إِلَىٰ
 فِرْعَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

وَذُو قُوَّةٍ عَذَابَ الْخَبِيثِ ۖ یہ آیت کے دو تان و تان کیا وہ چھوہ تو بہ۔ ژ ہونا جہنم کے عذاب۔ یہ عذاب
 جھوٹے آخریہ کس عذاب نسبت کہنی ذلک بمآقدمات ایدیکم وان الله لیس بظلام للعبيد یہ
 جھوٹو تو بہ تمہیں جھوٹے عملوں ہند ہند کہ سمیہ تو بہ پتہ نیو اٹھو برو نہ کن سوزوہ۔ یہ زانو تہہ وارہمہ اللہ تعالیٰ
 جھوٹے ہرگز ہند ن ظلم کرہ ان۔ ناحق کرہ ہجھ عذابس گر قدار کذاب الی فرعون والذین من قبلہم
 تمہیں کافرن ہنز حالت چھہ جھوٹے اندر کہ کفر و نافرمانی پیٹھ آو تم سزاوہ۔ یہ بھی سبھ فرعون سبہ قوی
 یہ تمہیں کافرن ہنز حالت جھوٹے جھوٹے اندر کفر و آیات اللہ تمہو یہ کیا کور کفر سے انکار خدایہ سندم
 آیتن فآخذہم اللہ بذنوبہم ہس رب تم اللہ تعالیٰ ان ہنز ان نافرمانن ہندہ وجہہ ان اللہ قوی
 شدید العقاب پز پانہ اللہ تعالیٰ جھوٹے سینہا طاقتہ دول سخت عذاب کرہ ان ذلک بان اللہ لم یکن
 مغيرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم یہ تمہو کہ اس کیا جھوٹے نجر مہ و رای سزاوہ ان
 چھہ ای وجہہ کہ اسہ ہشہ جھوٹے قانون سے قاعدہ مقرر۔ سو گوزہ اللہ تعالیٰ جھوٹے نجر تھہ نعمتس بدلاوہ ان
 یا سہ نجر قومس تم عطا کر مڑ اسہ۔ تو تان یا تان نہ تہ تم کابین بدلاوہ سمیہ تمہیں پیردہ منہ آسہ
 کرنہ آسہ یعنی عبادت سے اطاعت وان اللہ سمیع علیم یہ تمہو جھوٹے ثابت کہ اللہ تعالیٰ جھوٹو سوزوی
 نوزوہ ان، سوزوی زانوہ ان۔ جھوٹے حالت بدلاوہ جس معاملس اندر یہ جھوٹے ہنز حالت گد آپ الی فرعون
 والذین من قبلہم جھوٹے قوم فرعون سے تین کافرن ہنز حالت آس۔ سم تمہیں بدو تھہ

يَذُوبُهُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۵۲﴾
 إِنَّ شَرَّ الدِّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۳﴾
 الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ
 مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿۵۴﴾ وَأَمَّا تَشَقُّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ
 مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ﴿۵۵﴾ وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ
 خِيَانَةً فَاذْبُذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿۵۶﴾

آس کڈ بوا یا بیتا رتہو تم بوکتر پنہ بس پروردگارہ سیدین آیاتن انکارہ تم زلجھہ اپنہ فَاذْبُذْ لَهُمْ
 يَذُوبُهُمْ بس گال تم اسہ سمی گنہن نہ نافرمانین بندہ وجہہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ یہ پچانو اسہ
 فرعونہ سہ قوم دریاؤس اندر وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ہم ساری آس سینہا سرکش نہ ظالم اِنَّ
 شَرَّ الدِّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ پز پانچہ مخلوقواندرہ جھہ بدتر اللہ تعالیٰ اس رتہ
 تم لو کہ سمو کٹر کور۔ بس ان نہ تم تہہ طریقہ ایمان الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ
 فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ یمن سیت توبہ صلحک عمد و بیان کرو۔ تو پتہ جھہ تم پر جھہ لہ
 ٹھہ او ان سو پکن معاہدہ۔ یہ جھہ عہد شکنی کر بس کھو ژان۔ وَأَمَّا تَشَقُّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ
 خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ بس ہر گاہ جھہ لہو کہ تم عمد شکنی کرہ دن جنگس اندر مقابلہ کران۔ تمن پیٹہ
 عمدہ شتہ حملہ کران۔ جھہہ سیت گواہن ژار لون تم ہم تمن پتہ آسن مدد گاریا تمن پتہ اودہ وان آسن۔
 جھہ تم عبرت زلن وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً یہ ہر گاہ جھہ کھو ژوہ اندیشہ کرہ تہہ تو پتہ عمد
 شکنی فَاذْبُذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ بس داس ستر و جھہہ سو عمد تمنی کن۔ یعنی سو عمد ٹھہ اوہ۔ مگر تمہ عمد
 کہ ٹھہ اونچ خبر گھہہ سیدن دوشون فریقن برابر برابر یعنی تمن کرو خبر جنگ واقع کرنہ برو تھہ کہ چو تکہ
 جھہ جھہہ سمہ سمہ قسمچہ حرکت کران لہذا بس عمد او توبہ سیت کرنہ آمت جھہ سو گو ختم۔ جھہہ تم توبہ
 پیٹہ نور کھارن۔ جھہ صاف اطلاعہ و رای تمن سیت جنگ کران کیہہ خیانت إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِلَهُمْ لِأَعْجُزُونَ ﴿۵۹﴾
 أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
 لَاتَعْلَمُوهُمْ إِنَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ
 فَاجْتَنِحْ لَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۱﴾

الْحَالِيْنَ بِرِجَالِهِمُ اللَّهُ تَعَالَى يَخْتَوِي خِيَات كَرِهِيْمَ كَرَانِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِلَهُمْ
 مَن كَرَنِ كَافِرِيْمَ تَم كِيَاثَلِ أَسْمَ بَلِيْمَ - دُونَ يَحْسَبُ كَحْ كَه نَه اِس تَم قَابُو كَرْتَجِيْمَ اِلَهُمْ لِأَعْجُزُونَ بِرِجَابِ تَم
 تَمِيْن نَه اِسْمَ تَمِيْمَ جِيْزَه سِيْت عَاجِزَه تَم كَم كَر تَجِيْمَ - وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ
 الْخَيْلِ اِي مُسَلِّمًا تِيَارَكَم وَكَافِرِيْن سِيْت جَمَادِ كَرَنَه عِيْطَرَه يِه مَمْكِن سِيْدَه يِه سَامَانَه اَنْدَرَه، كُور كَنْدَت
 تَحَاوَنَه اَنْدَرَه تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تَم سِيْت كُورَه نَابُو كَحْ جِهَه خِدَا يِه سِيْمَ دُ شَمْن يِه بَانِ
 دُ شَمْن يِه اِيْعْنِي مَكْبِ كَافِرٍ وَآخِرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ يِه مَكْنِيْن كَافِرِيْن وَرَا يِه بَاقِي دُ شَمْن لِأَعْلَمُوهُمْ
 اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ سَمَنَه جِهَه زَانِيْكَه بَلِيْمَ زَانِيْكَه اللَّهُ تَعَالَى يُوْر وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّي
 إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ يِه لِيْس جِيْزَاه خَرِيْجِ كَم وَجِهَه خِدَا يِه سِيْزَه وَبِه اَنْدَرَه تَجِيْمَ مَنَز جَمَادِيْ شَامِلِ يَحْتَوِ
 تَمِيْمَ بِدَلَه يِه تَوْبَه يُوْر عَطَا كَرَنَه - تَوْبَه نَسِيْت يِه نَه كَانَه كِيَاه تَجِيْمَ اَنْدَر كَرَنَه - حَدِيْث شَرِيْفِيْن اَنْدَرَه تَجِيْمَ
 تِيْر اَنْدَا زِي يَجِيْمَ نَجْ كَجِ مَشَق كَرِيْجِ، كُر زَجِيْمَ نَجْ، كُر سِ بِيْنِيْمَ كَهْمُن بِيْجَه نَج سِيْخَاه فِضِيْلِيْت اَمْش - اَرْبَعَه وَتَه كُور
 بِنْدُوْق، تَوْب يِه بَاقِي اَلَاْت جَدِيْدَه جَلَاوَن يَجِيْمَن تَمِيْمَ قَا يِم مَقَام - عَام طُور وَر زَش كَرَن يِه تَجِيْمَ مَنَز
 دَاخِلِ وَلَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِحْ لَهُمْ يِه هِر كَاَه كَافِرٍ صَلْحَسُن مَاطِلِ سِيْدَن تَوْبَه يِه يَحْتَوِ اِبَا زَت كِه
 هِر كَاَه جِهَه يِه سِيْدُو مَاطِلِ تَجِيْمَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يِه كَمَر وَجِهَه اِسْتِمَادِ اللَّهُ تَعَالَى اِس بِيْنِيْمَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ بِرِجَالِهِمْ سُو يَحْتَوِ سُو رُو ي نُوْرَه اِنْ - سُوْرِي زَانَه اِنْ وَلَنْ يُرِيْدُوْا اَنْ يَخْدَعُوْكَ فَاَنْ حَسْبَكَ

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُواكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي
 آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ
 مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ
 عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
 مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ

اللَّهُ یہی ہر گاہ تم توبہ دھوکہ پڑھیں دین، نہیں چھو بیٹک اللہ تعالیٰ توبہ مدد کرنے خیرہ، حفاظت کرنے
 خیرہ کافی۔ چنانچہ **هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ** سو گو سؤی ہم توبہ نبی مدد کور
 ملا بخوسیت۔ ظاہری مدد کور با ایمانوسیت **وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ** ہم پروردگار ان آفت تروو با ایمان
 ہندمن دلن اندر **لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ**
 ہر گاہ تھہ خرچ کرہ ہوہ سوزوی مال لیس زمینس پیئہ چھو توبہ بچہونہ آفت پیدہ کمر تھہ جہدمن دلن
 اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فی تروو آفت تہن منز۔ **إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** پڑپاٹ سؤ چھو زور آور حمہ دول
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ای پیغمبر بس چھو توبہ اللہ تعالیٰ یہی ہم توبہ
 سیت چھہ با ایمان **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ** ای پیغمبر شوق بہ ترغیب دیو با ایمان
 جہادک۔ **إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ** ہر گاہ توبہ منزہ (۲۰) زن صبر
 کردن آسن تم پو شن کافر و اندرہ دون جن (۲۰۰)۔ **وَلَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ**
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہی ہر گاہ توبہ منزہ کھہ تھہ مجاہد صبر کردن آسن تم پو شن آس
 ساس کافر س بیاڑہ تم چھہ قومہ نا سمجھ آٹن خفف اللہ عنکم وعلما ان فیکم ضعتا فان یکن منکم

كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۵۰﴾ أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ
وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ
مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۵۱﴾ مَا كَانَ لِذِي نَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى
يُثَخِّنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُ وَيُنَازِلُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۵۲﴾ لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ

مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ گوڑہ ایک حکم علیہ صحابہ صیمن پیٹھ دشوار سپہ، اللہ تعالیٰ ان کو رسو
حکم منوخ۔ فرمودن دون کہ اللہ تعالیٰ ان توبہ پیٹھ تھنیت۔ تم زون کہ توبہ اندر چھ سستی۔ لہذا
بجھو ان یہ حکم کہ اگر توبہ منز آسن کہ ہتھ مجاہد ثابت قدم تم سپہن غالب دون جن کافرن پیٹھ۔ وَلَنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ہتھ پانٹھ ہر گاہ توبہ منزہ آسن کہ ساس
مجاہد تم سپہن غالب دون ساسن کافرن پیٹھ خدلیہ سپہ حکمہ سیت۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ بجھو صبر کرہ و نمین
سیت سیت تم مدد کران مَا كَانَ لِذِي نَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُثَخِّنَ فِي الْأَرْضِ ای مسلاؤ
توبہ دیو توبہ مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قید سن نشہ کہہ نہ مال ہتھ تم تراوانا دنگ۔ یہ گونہ جان۔
کیا زہ نبی کریم سب س شانس شوہ نہ کہ جہد قیدی کیلن بجھ نہ قتلہ درای بلجہ گو حسن تم قتل کرنہ
سن۔ تا ایٹکہ زمینس منز سپہ کافرن ہنز خوزری، شرہ فساد دفع تُرِيدُ وَيُنَازِلُ الدُّنْيَا ای
مسلاؤ تجہ بجھوہ ژھانڈان دنیا ک سامان تمی شو کہ دشوہ رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم قیدی
ند یہ رتھ تراوس پیٹھ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ اللہ تعالیٰ بجھو تجہدہ خیطرہ راضی آخر جس سامانس وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ بجھو زبردست حکمہ اول۔ سو کہہ ہا توبہ کافرن پیٹھ غلبہ دتھ سینٹھ مالدار
لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ لَسْتُمْ فِيهَا آخِذٌ بِعَذَابٍ عَظِيمٍ ہر گاہ نے اللہ تعالیٰ ان در روز ازل
یو کتھت آسا کہ ہمو قید یو منزہ انن بعضی ایمان سمہ سیت نہ کا نہ فساد واقع سپہ، سمیہ ک احتمال اوس نہ

لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ
 حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي
 قُلُوبِكُمْ خَيْرًا لِّأَيْدِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ
 فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا

سپید ہا تو بہی پیشہ یمن بشر یہ رہنے ہو کہہ ہو ذعاب نازل۔ چونکہ کانہ فساد واقع سپدند۔ تہجد مشورہ
 در اوقاتا قار ثوی سہر ہو کہہ تہجد سزا بشر محفوظ زدودہ **فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا** وون کھو تہجد
 منزہ یہ توبہ حاصل کور وہ تمن بشر قدر پاسب۔ حلال طیب زانتہ **وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ** یہ کھو ہو اللہ تعالیٰ اس۔ آئندہ نہ سحر و بڑھ کام زانہ۔ پز پانہ اللہ تعالیٰ بھو مغفرت کرہ
 وان۔ رحم کرہ وان۔ گھس سکر نوہ بخشائس۔ یہ گو مغفرت۔ مال قدر یہ کر نوہ حلال یہ کہیہ رحمت۔
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ای پیغمبر فرماو تمن قیدسن ہم تہجدس قبضس منز تہجد **إِنَّ
 يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا لِّأَيْدِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ** ہر گاہ اللہ تعالیٰ تہجدس دن اندر نیکی نہ رڈر
 و تہجد اسلام قبول کرئس اندر تلہ کر وہ سو توبہ عطا بہتر مال تمہ مال ہو نہ ئس توبہ بشر وصول کر نہ او
فَدِرَّئسْ أُنْدَرُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ کرہ توبہ مغفرت۔ اللہ تعالیٰ بھو سبھاہ مغفرت کرہ وان،
 رحم کرہ وان **وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ** ہر گاہ تہجد خواہش آسہ توبہ دھوکہ دسن اسلام آنہ سیت، یا
 رسول اللہ، سو کہہ نہ نو تہجد بھند **فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ** ئس تہجدس تمہو بھو تہجد برو تہجد نہ خدائس
 پندہ خیالہ دھوکہ دھنت۔ مگر خدائس بھو نہ کانہ دھوکہ دتہ **فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ** ئس موقعہ دنت اللہ تعالیٰ
 ان توبہ تمن بشر انتقام پنک برو تہجد لہ **وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** اللہ تعالیٰ بھو زانن دول۔ تمہس بھو خبر
 خیانتہ دول تہجد۔ حکمتہ دول پندہ حکمتہ سیت کرہ سو بہر کانہ صورت پیدہ۔ ہمہ سیت تم بہر گرفتار

وَجَهْدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا
وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^(۴۲) وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ

سپدن۔ اِنّ الذین امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانشبهم فی سبیل اللہ ہذا پات سمولو کو ایمان
اون ہیہ سمو ہجرت تہ کمر، پان وطن متہ شریف ٹرواکھ دینہم نکتہ۔ ہیہ سمو جہاد کورمال و جانہ سیت
خدا ہیہ ہزہ و تہ اندر تین صحابہ صمیمین ہجہہ و تان مہاجر و الذین اوا و نصروا ہیہ سمو لو کو تین
مہاجرین پتہ بس شہر س اندر جای دژ، ہیہ مدکور، تین ہجہہ و تان انصار۔ مدینہ متورک صحابہ صیب
اولیک بعضہم اولیاء بعض تم ہجہہ پانہ وان اکھ اکھ دوست ہیہ وارث و الذین امنوا و لکم یہاجروا
مالکم من و لایتہم من شیء حتی یہاجروا ہیہ سمو لو کو ایمان اتہ ہجرت کمر نہ تین ہجہہ توبہ
سیت نہ دوستی ہند کانہ تعلق نہ ورائک۔ یا تان نہ تم تہ ہجرت کرن۔ تلہ ہجہہ تم تہ تہ کلمس اندر
داخل و ان استنصروکم فی الدین علیکم النصر ہر گاہ تم توبہ نشہ دینچہ عنہ کامہ اندر مدو ڈھانڈن۔
یعنی کافرین سیت جہاد کرس اندر توبہ پڑہ تین تہ اندر مدکورن إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ مگر گروہی کھنہ مدکورن۔ بلہ تین مقابلہ آسہ کرن تین لو کن سیت تین تہ توبہ پانہ وان کہہ
معادہ آسہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ تعالیٰ ہجہہ ہزہ سارے کامہ و چھان و الذین کفروا
بعضہم اولیاء بعض کافر سم ہجہہ تم تہ ہجہہ ازاؤین ہند دوست وارث إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَثِيرٌ ہر گاہ کہہ تہ کلمس پینہ عمل کمر نہ یعنی مسلمان مسلمان پانہ وان اکھ اکھ تہ
مدگار بچونہ سبلہ دو تہ کلمس اندر فتنہ۔ ہیہ دو تہ بوڈ فساد۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجِرُوا وَجَاهَدُوا فِي

وَفَسَادٌ كَبِيرٌ^(۴۳) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ^(۴۴) وَرِزْقٌ كَرِيمٌ^(۴۵) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^(۴۶)

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ سہو لو کو ایمان آنتھ ہجرت کمر یہ خدایہ سزہ دتہ اندر جماد کور۔ یہ سہو مهاجرن جای دوشیہ ادا دگور ہم ساری مهاجرتہ انصار ہجرتہ پناہی مسلمان کہہ مغفرتہ و رزق کریمہ ہندی خیطرہ، نحو بود مغفرت آخر کس منز یہ با عزت روزی جنس منز وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ یہ تم لو کہ سہو ہجرت نہوتہ پتہ ایمان اون۔ تو پتہ ہجرت کمر، یہ تو بہ سیت شامل روز تمہ کافر ن سیت جماد کر، تم لو کہ ہجرتہ تو ہی اندرہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ہم رشتہ دار ہجرتہ ساقین ہند تم ہجرتہ زیادہ حق دار کہ اکس غیر رشتہ دارن نسبت، خدایہ سزہ حکمہ موجب إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ پناہی اللہ تعالیٰ نحو پرتہ چیز اہل ان تمی نحو پرتہ وقتہ مصلحتہ موجب احکام مقرر کر ان۔



النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوُا أَعْنَافُ
غَيْرُ مُجْزِي اللَّهِ وَيَسِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ إِلَّا
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ
يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

منزلہ نمبر۔ - وَأَنَّ اللَّهَ مُجْزِي الْكَافِرِينَ یہ زانیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کافر نر سوا کر وہ ان دنیاوی آخرتس اندر عذابس گر قرار کرنے سیت۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ یہ جو اعلان عام یوان کرنے خدا نرس ہے جس سیت پیغمبر ہندہ طرفہ پڑھتے کہ وہ ہے۔ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ سمہ گوی زہ اللہ تعالیٰ ہے جس پیغمبر جو بالکل الگ تمس مشرک نرس سمہ پانہ سو عمد پھڑو و نرس حد نہیں منز کرنے اوس آمت۔ مگر باوجود آن جو وہ نہ یوان تمس کہ۔ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وڈان ہر گاہ جسے کفر و نرس توبہ کر و نہ باز ایوہ جو بہتر جسے ہر خطیرہ و دشون جمان اندر۔ دنیاس اندر بچو قتلہ نرس آخرتس اندر عذابہ نرس۔ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَوُا أَعْنَافُ غَيْرُ مُجْزِي اللَّهِ ہر گاہ جسے اسلامہ نرس اعراض کر و نرس زانو جسے کہ ہر گز یہ بیان نہ توہ نرس ہر آنتہ نہ عاجز کر تھہ اللہ تعالیٰ منہ طرفس کن نرس سیت۔ کہ جسے روز نہ سیت یا یہ نرس چیزہ سیت۔ وَيَسِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْيَوْمِ بوزہ نانو کہ جسے کافر و ردناک عذاب خبر سمہ نرس نہ سم چہی نرس نرس۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا مگر جسے جسے عمد تمس کافر ن ہندہ حقہ سمہ توبہ سیت معاہدہ کورنت جو نہ توبہ آسکے نہ نرس چیزس منز توبہ نسبت عمد پورہ کر نرس منز کی کر مٹ۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا یہ آسکے نہ کانہہ اکس جسے جس ڈشمنو اندرہ توبہ مقابلہ مدد کورنت۔ فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ تمس سیت کر و جسے معاہدہ پورہ ہتھ مدتس تا ان تمس سیت مقرر کرنے آمت آسہ یعنی تم جسے بد ستور آمنس اندر۔ جسے ہتھ ہتھ لٹخ دست برداری کینہہ۔ تم گے بنی خمرہ بنی مدجن۔ سم زہ قبیلہ آس بنی

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۴﴾ فَإِذَا انسَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ قَاتِلُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَذُواهُمْ وَأَحْصَرُواهُمْ
 وَأَقْعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ
 آتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵﴾ وَإِنْ
 أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ
 اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶﴾

کنائس اندر، سمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کو رسمت اوس جہد سے معاہدہ سے اس باقی اور
 نور ہے۔ سمو اس سے عمد یعنی کر مہینہ ہے۔ لہذا زود نہیں معاہدہ باقی بدستور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
 پر پاب اللہ تعالیٰ محمود عمدی ہے پر ہیز کردہ نین دوست تھاوان فَإِذَا انسَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ اس لیے
 نڈرن تعظیم وال رسمت قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ اس مار بکھ مشرک سے ہینہ سے سے
 وَخَذُواهُمْ گرفتار تمھ تھا بکھ قید وَأَحْصَرُواهُمْ پتھ ری بکھ تم خانہ کعبہ سے طواف کرنے ہے۔
 وَأَقْعَدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ زاگن زود زود تم پر سے موقس سے زان جاہ پیٹھ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پتھ ہر گاہ تم توبہ کرن مکر ہے ہے بین کر ہے اسلام ہے کلمہ،
 مثلاً نماز پر ہے دن زکوٰۃ، پتھ تراویح ہے ہنز و تم۔ دیو کہ پتھ اور دیو إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہر پتھ
 اللہ تعالیٰ ہے سینہ مغفرت کردن سینہ ہر کردن وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
 ہے ہر گاہ مشرک کو اندرہ کا نہ توبہ پناہ مکر توبہ سے ملاقات پتھ کرن۔ توبہ دیو اس پناہ سے اجازت
 حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ تا ہے توبہ نش پتھ بوزہ سو کلام خدا۔ ممکن ہے توبہ سے اس پتھ کا نہ اثر تھ
 أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ تو پتھ و اتا دیون سو پناہ سے پتھ جاہ۔ اس دیون سے سے حفاظت خیرہ پتھ کا نہ شخصہ۔
 یو تان سو پتھ اس جماعت ہے ہے دل ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ہے گورہ آئی خیرہ کرن ہے تم ہے
 بے خبر اسلام کیو حکمانو ہے ممکن ہے ہر گاہ توبہ اس دیو توبہ پتھ ہے، سو بوزہ توبہ ہے اسلام ہے تھ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ
 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا
 لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ
 يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ
 بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۝
 اِشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَصْدًا وَعَنْ سَبِيلِهِ ۝

سمہ سیت متاثر سہت تین بظہر بہ واتا وہ تمہہ دلیلہ۔ تم بہ سہن متاثر کيف يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ
 اللہ وَعِنْدَ رَسُولِهِ۔ تمہہ پانچہ بوجہ آیتہ مشرک خدائس بظہر کہانہ عہدہ یا تہمہ س تینہ س بظہر۔
 نس عہد قابل رعایت بہ زانہ۔ کیا زہ رعایت بہ تہہ عہد س کر نہ تہہ نہ دوہم فریق پانہ بظہر اوہ
 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مگر تم لو کہ سمہ معاہدہ کور توبہ سیت مسجد حرامس کجہ کل
 فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ۔ ایچس کالس تم سیور روزن توبہ سیت تہہ نہ روزہ تہن سیت
 سیور۔ اِنَّا اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بیک اللہ تعالیٰ بہتو دوست تھاوان بد عہدی بظہر پتہ روزہ و تہن
 كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً۔ تمہہ پانچہ روزہ تہہ عہد قابل رعایت تہہ س
 وکن اندر جتو کھوچر۔ چنانچہ ہر گاہ تم توبہ پیچہ غلبہ کر تک موقعہ لبہن تم کرن نہ کانہ ولایہ نہ لحاظ نہ رشتہ
 داری ہند نہ کنہ عہدک یُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ تہن پیچہ جتو نہ کانہ اعتبار تم جہہ
 توبہ راضی تھاوان کتو سیت دل جھک تہن تہن انکار کران دل جھک تہن تہن سیت وَأَكْثَرُهُمْ
 فَاسِقُونَ۔ تہو اندر جہہ زیادہ سرکش نہ شریہ۔ تم جہہ یشعان عہد پورہ کرن اِشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
 ثَمَنًا قَلِيلًا قَصْدًا وَعَنْ سَبِيلِهِ۔ حاصل کر تہو خدیہ سند تہن اذکار تہن بدل دنیاک متاع ناپائیدار۔
 توبہ رچہ پتہ لوک جہزہ و تہ بظہر۔ لوکن دیو کجہ نہ جہزہ و تہ پیچہ پتہ یعنی اسلانس منز داخل سہنہ
 اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہر پات تم سمہ کامہ کران جہہ سمہ جہہ سیتلہ جہہ کامہ لَآ يَرْقُبُونَ فِي

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا
 وَّلَاذِمَةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿۱۰﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَفَخَّوْا نَكُمْ فِي الدِّينِ وَنُقِصَلُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِنْ نَكَثُوا آيْمَانَهُمْ
 مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
 آيَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
 يَنْتَهُونَ ﴿۱۲﴾ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا آيْمَانَهُمْ

مُؤْمِنٍ إِلَّا وَّلَاذِمَةَ تم بھنہ لحاظ سے رعایت کران کا نسبہ بالایمان سیدہ حقہ۔ نہ مکہ رشتہ داری ہنہ نہ
 مکہ عہدک وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ سے لوکھ بھنہ عدہ ڈالوں فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
 الزَّكَاةَ وَفَخَّوْا نَكُمْ فِي الدِّينِ باوجود اس ہر گاہ تم توبہ کرن بشر کہ بھنہ یہ تھاؤن قاسم نمازیہ کرن
 اواز کوا طلبہ بھنہ تم سے بھنہ ہای دینس اندر وَنُقِصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس بھنہ دیشہ نادت
 احکام وہان زان والین لوکن ہنہہ خیرہ وَإِنْ نَكَثُوا آيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ توبہ ہر گاہ
 تم بھنہ اؤن قسم ہن عمہ کرنہ پتہ۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ یہ دن بھنہ س دینس طعنہ۔ شخہ پیئہ
 کرن اعتراضات فَقَاتِلُوا آيَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
 آتھہ حاکس منزہر و بھہ جنگ کھرہ کین پیشوا ان سے زٹھن سیت، ہنہ پاتھہ تمس ہنہونہ عنہ عمہ دیا تک
 خیال۔ دیوہ تم پتہ روزن کھرہ بھنہ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا آيْمَانَهُمْ سیاہ بھہ سمر و نا جنگ
 تمس لوکن سیت۔ مو بھنہ لو عمہ ہن وَهَتُّوْا بِأَخْوَابِهِ الرِّسُوْلَ یہ ہنہ مقصد کور بھنہ بھنہ خد اپتہ شہہ
 منزہ ہیر کڈ تک وَهَمَّ بَدَأُوكُمْ أَوْلَ مَثَرَةٍ تموی کور ابتدا توبہ سیت جنگ کرنک۔ کیا زہ تموی کور

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ
شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۲۰﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۲۱﴾ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ

و لعل ہلہ ذلہ کران جمادس اندر۔ یہ گویا خشن نہ ہو شیدہ تعلقات دوستی ہند آسن کافر ان سیت۔ واللہ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خدا نِس ہجہ تمہ سارچی ہو خبر یہ تمہ کران ہجہ۔ مگر سُو ہجو یثخان یہ نِس پانس
خبر ہجہ یہ گویا نسن یہ آشکارا سہدن مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ مشرک ہجہ قالیتمی
سہ تمہ کیا کران آباد خدلیہ سزہ مسجدہ شہیدین علیٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ہجہ حالس منزکہ تمہ آسن اقرار
کران مگر جن کسمن یہ کائین ہند۔ یہ آسن معبود بر حُسن و رای ہو تیلن ہنز پر ستنش کران اُولَٰئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ سمن لوکن ہنزہ سارے رثہ عملہ عمارت مسجد وغیرہ ہمیشہ
ہجہ ضائع شرکہ سبہ۔ سنی ہجہ روزہ دن ہمیشہ نارس اندر کیا زہ ذریعہ و سبب نجات ہجو سمن ضائع
سہنت إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آباد کران نہ خدلیہ سزہ مسجد ان مگر تہ
سہو ایمان اون معبود بر حُسن یہ پتہس دوس ولہ سیت تو پتہ کرن تاؤ سیت تمیک اظہار یہ گو۔
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ یہ تھا دکھ برپا نماز یہ مگر کہ ادا زکوٰۃ۔ یہ کھو ژنہ کانسہ
خدانس و رای فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ نِس ہجہ امید یہ توقع یعنی وعدہ ہمہ سنی لو کہ
آسن ہدایت لبہ و نیو اندر۔ منزل مقصودس دانہ و نیو اندرہ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ کیاہ توہہ کورہہ حاجین آسب زمزم چلان، یہ مسجد حرامک آباد تھلان برابر کتنن آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمس شخصہ سندن عملن سیت سہم ایمان اون معبود بر حُسن

الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ
 اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
 هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۱۰﴾
 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَّتْ لَهُمْ فِيهَا
 نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿۱۱﴾ خُلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

بیس دویس یعنی قیاس۔ سب کرنا جہاد خدایہ سزا دہندہ اندر۔ خدایہ سبہ کلمہ تھزورہ خیطرہ لا
 یستون عند اللہ خدائیس زہرہ جہدہ ہم لو کہہ برابر وللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ہتھونہ
 و تھ ہوان ظالم لو کن تھن ہتھنہ یہ تھ فخرہ تران۔ تھن ہتھو خیال حاجنن آب زمزم چلان، مسجد حراچ
 آبادی کرن یہ چھ ہڈ نیکی مگر یہ ہتھو کن فخرہ تران کہ یمن نیکن ہتھو تل اعتبار یلہ ہر کہ زہرہ دور آسہ،
 قیاس پور پڑھ آسہ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ تم لو کہ سوا ایمان اون یہ ہجرت مگر خدایہ سبہ خیطرہ، یہ کوز کہ جہاد
 خدایہ سزا دہندہ اندر پنہ نیو مالوتہ جانوسیت، تم ہتھو سینشاہ تھد، در جہ کن، خدائیس زہرہ آب زمزم چاوه
 دنیوتہ تعمیر مسجد کرہ دنیو خوتہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تم لو کہ ہتھو پورہ کامیاب سبہ دن
 یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَدَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خوش خبری ہتھو دو ان تھن
 پن پروردگار پنہ جہ رتج، یہ پنہ جہ رضامندی ہنز۔ یہ تھن جہنن ہنز تھن منز تھنہ خیطرہ پو شہ ونہ
 نعو ہتھو خلدین فیہا ابدان ان اللہ عندہ اجر عظیم تمس جہنن اندر آسن روزہ دن ہمیشہ۔ ہتھک

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۴۴﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي
 مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ
 فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا
 رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿۴۵﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا
 وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿۴۶﴾

ہاوان یا فرمان کو کن منزل مقصود حاصل کر لیں۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ
 وَيَوْمَ حُنَيْنٍ تھیں اللہ تعالیٰ ان کمر توبہ مند نہ یاری وار نہیں جانن خصوصاً جنگِ خلیس منہر اِذْ
 اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا یلہ توبہ عجیب آؤلو زہ پینہ لشکر ہند زیادہ آسن تمہ ساتہ
 اوس تہزہ لشکر ہند تعد او باہ ساس ۱۲۰۰۰ کافر ہنزہ لشکر ہند تعد او اوس ژور ساس۔ کس دیت نہ
 توبہ تمہ لشکر زیادہ آسن کانسہ فاسدہ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ یہ سہ توبہ پینہ
 زمین کول آسٹھ نکت سخت خوف زدہ سپ نہ موکھ۔ کافر ہندہ توبہ پینہ بکثرت تیر لاینہ سمیت تھ
 وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ چنانچہ تہہ ژلوہ پہا سپت تھ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 تو پتہ ترو اللہ تعالیٰ ان دلک قرار پتہ نس پیغمبرس بیہ بالیمان پینہ۔ چنانچہ ساری یلہ ژل حضرت نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ژود ثابت قدم سفید کاترس پینہ سوار۔ سمیت آسٹھ حضرت عباسؓ
 ابو سفیان رکا نس تھپ کمر تھ حضرت عباس آتھ دو دکھ لو کن آو سم ژلت آس بیہ پو رکھ پانہ باوا بلند
 اَنَا النَّبِيُّ لَأَكْذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سمہ آوازہ سمیت کافر ہشت ہوتہ ابرہہ تھ وَأَنْزَلَ جُنُودًا
 لَمْ تَرَوْهَا یہ سوز اللہ تعالیٰ ان آسٹھ طرف لشکر او یوسہ نہ تہہ وچھان آسہ یعنی ملائک سمہ سمیت
 یہ اثر سپد کہ مسلمان سپد بیہ جمع۔ تو پتہ ہنژ تہو دوبارہ لڑای کران وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ کران
 چولا کہ کافر عذائس گرفتار۔ فتح کران عطا پتہ نس پیغمبرس وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ یوسہ ہجو

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۶۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
 نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمِهِمْ هَذَا وَ
 إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۶۵﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ
 رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

کافران ہند سزاؤنیاءس منز ثَمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ توبہ کر وہ اللہ تعالیٰ توبہ
 نصیب ہوا اندرہ پس خوش کرئیں۔ چنانچہ واریاہ سپہ ستمو منزہ مسلمان وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ
 بخوش سینہاہ مغفرت کرہ دن سینہاہ رحم کرہ دن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ آی
 مسلمانو مشرک بخوش ناپاک شرکچہ ناپاکی سیت بہ بخوش اعتقاد سیت قَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
 عَمِهِمْ هَذَا اُنس نہ سپدن تم نزدیک مسجد حرامس سمہ ورہہ پتہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ہر گاہ خبہ تہمدہ نہ ابھہ سبہ فقرس یا تجار نجس نقصانس کھوڑو، خبہ روزو
 خوش، اللہ تعالیٰ کرہ توبہ مالدار پتہ فضلہ سیت ہر گاہ سو پتہ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ پز پانہ اللہ
 تعالیٰ بخوش سوزوی زندہ دن سینہاہ حمدہ دل قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ آی
 مسلمانو جنگ کمر و تہن کو کن سیت سم نہ پز پتہ کر ان بہتہ معبود بر حق بہتہ تہمدہ پز پتہ کر ان قیا نجس
 دوئس وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بہتہ تہمدہ حرام زمانان تم چیز سم خدا لن نہ تہمدہ
 تہمدہ بن حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم حرام کمر۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ بہتہ سم نہ پوز دین،

أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَغِيرُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۲۰﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ

دین اسلام قبول نہ تسلیم کران چھہ من الذین اوتوا الکتاب تمولو کو اندرہ من کتاب
عطا کر نہ آہ یعنی یهود و نصاریٰ ان سیت، سنی جنگ سرد تو تان حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ
وَهُمْ صَغِيرُونَ تو تان نہ تم ہاں تازن اُس پیش کران پنہ نیو اتھو ماتحت روز تمہہ۔ ذیل نہ
خوار سپد تمہہ۔ ان ماتھہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ یہ
چھہ زمان یہود و اندرہ بعضی لو کہ زہ عزیر علیہ السلام چھو خدایہ سُنْدُجُو یہ چھہ نصاریٰ اواندرہ اکثر وہان
کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام چھو خدایہ سُنْدُجُو ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ سمہ چھہ ہنزہ کتھہ، جہنزد و چانیو۔
تھنٹس سیت چھونہ بمن کتھن کانسہ تعلقاہہ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
سمہ یہ چھہ تمہنی کافرن ہنزہ کتھہ ہٹھہ کران سم تمین برو تھہ آس قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اللہ
تعالیٰ گالین تمین کو گن چھہ گوحان سم پڑو نیشہ ڈلتھہ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ تمبو چھہ بناوست عالم نہ عابد ہن مطاع۔ حلال و حرام
منزہ چھہ جہنزا اطاعت توھی کران یڑھ خدایہ سز شوبہ کران۔ صریح حکم نفس پنہ چھہ جہنمن اقوال
ترجیح دو ان یڑھ اطاعت کران گنید عبادت کران۔ یہ شوبہ ہا خاص معبود برحقہ سزنی یا ڈ کران۔ آمد
اعتبارہ چھہ سم یہ مشرک یہ چھہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رُب زانان۔ تمین چھہ خدایہ سُنْدُجُو
زانان۔ یہ یہ گو شرکی وَمَا أَسْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا حالہہ من آیود نہ حکم کر نہ خدایہ

ابن مريم وما أمرُوا إِلَّا ليعْبُدُوا اللَّهَ وَاحِدًا
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾
 يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى
 اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ
 الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
 عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ

سبزان بتابن اندر۔ مگر معنی معبود بر نفس عبادت کر تک لآلِہِ الْاِلهُوْ نَس وراى بھونہ
 معبودى کانہ عبادتس لایقى کانہ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ سُو بھو منزه تہ پاک جہودہ حرکہ
 بَشَرِ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ بِضمان جہہ تمہہ ذمیتہ کرہ ہن خدایہ سُنْد نور یعنی
 دین اسلامی پنہ نیو بھو کو سیت یعنی آسو سیت جہہ اسلامس پیئہ اعتراض کران وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا
 أَنْ يُتَمَّ نُورُهُ خدا بھونہ ہند کران مگر فقط بھن نور پور کران۔ سُو نور کما س و اتلان وَلَوْ كَرِهَ
 الْكَافِرُونَ اگرچہ ناخوشی اتن کافرن۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ سُو
 معبود بر حق گو سوی سم سوز بھن بے غیر بر حق نوؤ ہدایت ہتہ ہہ دین حق ہتہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
 بھتہ تہ غلبہ ہہ سارنی دین پیئہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ ناخوش اتن مشرکن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ آمَوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اکی با ایمانو پز پانہ
 واریاہ عالم یوزان ہند، ہہ عابد نصاریٰ ان ہند چہ لوکن ہند مال کیوان نا حق۔ یعنی ہذ حکم جہہ کھان۔
 عوامن ہنزہ مرضی موافق جہہ فتویٰ لیکنان تمبہ نذرانہ وصول کران وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظهورُهُمْ
هَذَا مَا كُنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳۸﴾
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي

آمی و جبہ جسے تم لوگ کھپتے رہناں خدایہ سزہ و تہہ بشر یعنی دین اسلامہ بشر۔ کیا زہ جہد یو ایز یو فتویٰ
اوسیت جہد لو کہ ڈھوک منز جہد، گمراہی منز یو ڈتھ روزان۔ یو زہ جہد قبولی کران۔ بلکہ یو زہ حائل تک
بجھو کہ خیالی گمراہان۔ غامت حرص و ہوسہ نو کہ جہد مال جمع کران جہد مصلحتن یہ سخت و عید و جھو
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ ہم لو کہ جمع کران نہ
سونیراوان جہد سون نہ رو پھ تو پتہ جہد تھ خرچ کران خدایہ سزہ و تہہ اندر فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ
الْأَلِيمِ نہس و نو تم کڈرہ عذاب بشارت يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سمہ دہنہ نار جہنم
گرم ایہ کرنہ سون نہ رو پھ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ نہس یہ داغ کرنہ سمہ سیت ڈیکن جہدین
وَجُنُوبُهُمْ وظهورُهُمْ یہ لہہ کانین جہزن، یہ قمرن نہ نیشن جہدین۔ وندہ ایجھہ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ یہ جھو سون جہد مال نہس تو بہ سونیراوانہ اوسو پندہ خیرہ۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ نہس
ژہو منزہ تمیک یہ جہد سونیراوان آسہ۔ چو جہد آسہ بردتھ آسہ جہد ذکر کرنہ۔ مشر کو اوس غلط و سلط
کورمت رحمن ہندس حساس اندر۔ مخرمس آس صفر ہلاوان۔ ذی القعدس آس ذی الحجہ ہلاوان پندہ نیو
مصلحتو موجب۔ تمی نو کہ فرمود اللہ تعالیٰ اَنْ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
پنپانچہ اللہ تعالیٰ اس نیش جہد رحمن ہنز گریندہ باہ رحمتہ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ خدایہ سزہ و تہہ یعنی لوج محفوظس اندر۔ سمہ دہنہ و تہہ آسمان نہ زمین پیدہ کوزان ہنہ

كُتِبَ لِلَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا
 أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا
 فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ۗ كَمَا
 يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۹﴾
 إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا
 يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُجِرُّونَهُ عَامًا لِيُؤْخِرُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ

أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ تہواریتو اندرہ ہجرتھ ژور ریتھ تعظیمک۔ ذی القعدہ۔ ذی الحجہ۔ محرم تہ رجب
 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ تہ ہے امر مذکور ہجو حساب، دین مستقیم۔ یعنی ریتن ہند باہ آسن۔ تعظیم و
 حرمتک ریتھ ژور آسن۔ اتھ بدل تہ سہ جالبج طریق آسن۔ تم آسن تہواریتو علاوہ کہہنہ ریتھ ہرہ راولان
 تہ زیادہ کران۔ یہ آسن تعظیم کین ریتن اندر تہ ردو بدل کران۔ یہ کہیہ بد دینی۔ دین گوئی یہ اللہ تعالیٰ
 اَنْ مَثْرُ رُكُورِ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ پس تہ آسویمن ژور ریتن اندر پانہ وان لڑای
 کمر تھ ہمن ژون ریتن ہنز بے حمتی کمر تھ پانس پیٹھ ظلم کران وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً
 کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً یہ آسوسارنی مثر کن سیت جنگ کرنہ خیطرہ تیار روزان اتھ پانہ تم توہیہ
 سارنی مسلمان سیت جنگ کرنہ خیطرہ آمادہ ہجرتھ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یہ زانوڑہ اللہ تعالیٰ
 ہجو پر ہیز گارن سیت سیت۔ تھ تھاوہ ایمان و تقویٰ ہن شعار کھو ژومہ کانسہ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي
 الْكُفْرِ ریتن ہند اوردہ یور کران، تعظیم کین ریتن ردو بدل کران ہجو تہ مگر کفر س اندر زیادتی کران
 يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا عام کافر ہجرتھ آمہ سیت گمراہیوان کرنہ يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُجِرُّونَهُ عَامًا
 کافر ہجرتھ تعظیم کس ریتس اکہ وریتہ پنہ پنہو اغراض نفسانیو منو کہہ حلال زانان۔ تھ پانہ تیس ریتس
 تیس تہ تعظیمک ریتھ اوس تعظیمک ریتھ زانان لِيُؤْخِرُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تھ برابر تھاوان تعداو

اللَّهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ﴿۱۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۱۱﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ

رہن ہند ہم اللہ تعالیٰ ان محترمہ بناوست آس فیحیلو ما حرم اللہ فتح حلال بناوہ من تمن رہن ہم اللہ تعالیٰ ان محترمہ معظم مکرر کرمت آس زین لہم سوء اعمالہم زینت آوونہ جہزن پیچہ کابین۔ تمن جہہ تمہ پیچہ کامہ جان نہ رثہ بوزنہ یوان واللہ لایہدی القوم الکفرین اللہ تعالیٰ بخونہ و تہ ہوان نہ توفیق روان کافر قومس یا ایہا الذین امنوا مالکم اذا قيل لکم انفرؤا فی سبیل اللہ ای بایمانہ توبہ کیاہ سپوہ۔ توبہ یلہ ونہ یوان بخونہ و خدایہ سزہ و نہ اندر جہاد کرنہ خیرہ اثاقلتم الی الارض ملطہ سپوہہ زمیں کن یعنی کسل و کمالت غراوہہہ ارضیتکم بالحیوۃ الدنیامن الاخرۃ کیاہ توبہ آیوہ بوزنہ جان دنیاہ چ زندگی آخرتہ خوہ فہامتاغ الحیوۃ الدنیافى الاخرۃ الاقلیل حقیقت جہہ تہہ کبہ دنیاہہ زندگی ہند مال و متاع بخونہ آخرتس نسبت مگر سینماہ کم الا تنفرؤا و یعد بکم عذابا الیما ہر گاہ لے جہہ جہاد کرنہ نیر واللہ تعالیٰ کرہوہ کڈر عذاب۔ ویستبدل قومًا غیرکم یہ نہ توبہ ہذل میں قومس جہہ ختم سمر تہہ ولا تضروہ شیئا جہہ بخونہ خدایہ سندس دینس تہہ قسمہ ضرر و اتاوتہہ واللہ علٰی کل شیء قدير اللہ تعالیٰ بخوہ پر جہہ چیزس پیچہ کڈرہ دول الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ ہر گاہ لے جہہ اس پیچہ بر حقس ہند و کاسہ پروا بخونہ۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ
 لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَيْهِ وَأَيَّدَا بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٩﴾
 انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

پیشک اللہ تعالیٰ ان کمر تمین جن یاری سے مدد تمہہ وقتہ سمہ وقتہ زیادہ پریشانی ہند وقت اوس إذ انقربہ
 الَّذِينَ كَفَرُوا علیہ تم کافر ونگ کمر تمہ جن شر سے وطن تراوس پیٹھ مجبور کمر ثانی اثنتین علیہ تم
 آس دویو منزہ دوہم صاحب بیا کہ صاحب اوس ابو بکر صدیق تمین سیت إذ هُمَا فِي الْغَارِ علیہ تم
 دشوے آس گو پھہ اندر تمہہ غار ثور آس دمان إذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ علیہ پیغمبر حق پنہ نس یار
 غارس ابو بکر صدیق نس فرماوان اوس لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کھو ژمہ، علم منہ نر۔ پیشک اللہ تعالیٰ
 سند مدد و نحو اوس سیت فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْكَ پس ترود اللہ تعالیٰ ان دلگ قرار سے تسلی تمین پیٹھ
 وَأَيَّدَا بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا بیہ کور تمین مدد اللہ تعالیٰ ان ملا تمین ہنزہ تمہہ لشکرہ سیت یوس نہ توبہ
 وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ بیہ ترود اللہ تعالیٰ ان کافرن ہنز تمہ یعنی شرک و کفر کہ
 اشاعہ تمہہ سیت شاہ بون سے پست تم کمرن خوار و ذلیل وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اللہ تعالیٰ سند کلمے و نحو
 سیت شاہ بند وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ و نحو غالب حکمتہ دول۔ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ای
 مسلمانو نیر ان آسہو جمادہ خیطرہ سمہ ساتہ تہہ نیر نہ خیطرہ اعلان آسہ یوان کرنہ۔ سلاح در ای سے سلاح
 یار تمہہ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ آسہو جمادہ کر ان خدایہ سزہ دوتہ اندر
 مال و جانہ سیت۔ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ای و نحو تہہ خیطرہ ہستہ ہر گاہ تہہ زمانہ و نحو
 لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا ہر گاہ آسہ ہا مالہ جلد حاصل سپدہ وان بیہ آسہ ہا سفر اہتہ زحمت

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ
 وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ
 لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ
 وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۳۶﴾ عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ
 أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعِنَا لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ
 الْكَاذِبِينَ ﴿۳۷﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

لَاتَّبَعُوكَ علیہ نیرہ من منافق توبہ سیت و لکن بعدت علیہم الشقۃ لیکن تموزون یہ سفر ج
 مسافت جھہ سیٹھاہ زٹھہ تھی لک تم ارہ سرہ کرنہ و سیحلفون یا اللہ لو استطعنا لخرجنا
 معکم یہ دن تم خدلیہ سند قسم ہاوتھ زہ ہر گاہ اسہ وسعت آسا اس تیرہ ہو توبی سیت۔
 یھلکون انفسہم لہر قسم ہاؤ ہاؤ جھہ تم بن پان ہلاک کران ستن عذاب کران وَاللهُ يَعْلَمُ
 انھم لکاذبون اللہ تعالیٰ چھوزانان زہ بیٹک جھہ تم اپزہر عفا اللہ عنک لہر اذنت لھم اللہ
 تعالیٰ ان کور توبہ عفو۔ توبہ کیا ہر دیو توبہ من اجازت جھہ نہر پتھ روز تک۔ ٹھہ چار زہ ہے حشی
 یکتبن لک الذین صدقوا و تعلم الکذبین یوتان توبہ نہ ہا کو دوں پوز مہر زانہ ہو کہ ٹھہ اپز
 زہر۔ لا یستأذینک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم و انفسہم
 توبہ نہ حض منگن نہ اجازت تم لو کہ ہم پڑھ کران آس منہ دہر حقس یہ حقس دوئس یعنی قیا حقس
 دوئس تم کیا روزن ہتھ مال و جاؤ سیت جماو کرنہ نہر وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ چھو پوزانان
 پر ہیز گانان انما یستأذینک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر اجازت منگن تھے لو کہ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿۳۸﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ۗ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۳۹﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ۚ وَلَا أُضْعِفُوا إِخْلَاقَكُمْ لِيَبْغُوا فِيكُمْ الْمُبْتَلِينَ

ہم نہ پڑھ کر ان بھجے محبوب برحق نہ جس دوس واڑتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون یہ تم شک بھجودن اندر نہیں بھجے تم تمہنی شکن اندر حیران سرگردان پھیران ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ہر گاہ تم جن جمادس نیرہ تک ارادہ آسا تلہ کرہ من تیاری تمہہ خیطرہ سہلح سامانہ سیت بہہ کرہ من و تہ خچک بندوست ولکن کرہ اللہ انبعائتم فثبطتم لیکن اللہ تعالیٰ ان کرنا پسند بھوند نیرہ خیطرہ آمادہ سپدن نہیں سکران تم کا تلہ۔ اوکن دژ تلہ نہ آتھہ و تھہ۔ وقیل اقعدوا ماع القعدین دنہ او تم جن بیو بیوان سیت یعنی زمان نابالغن ہ معذورن سیت لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ہر گاہ تم نیرہ من توہر سیت توہر منز ہر اوہ من نہ بھندہ خرابی ہ نقصانہ و رای ولا اضعفوا اخلاکم یہہ کرہ من سیشاہ جلدی توہر منز تفرقہ تراونہ خیطرہ یبغونکم الفتنہ تم بھجے تلاش کران توہر منز قید ہ فساد واقع سپدنک وفیکم سئعون لہم توہر منز ہ بھجے کاتیاہ ہزان سئعن کن تھوہ دن واللہ علیہم یالظالمین اللہ تعالیٰ اس بھجے ہر معلوم مضہ ہ ظالم لعدا ابتغوا الفتنہ من قبل وقلوبوا

وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾
 لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ
 حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۳۶﴾
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اضْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ۗ أَلَا فِي
 الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾
 إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ
 يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ

لَكَ الْأُمُورَ تحقیق تمبوکر برو تھے کہ کوشش فسادچہ آس دو ان ور تہنزن کامین حتی جَاءَ الْحَقُّ
 وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ یو تان ہدوعده آوغالب سپد خدلیہ سند حکم۔ وَهُمْ كَرِهُونَ تم آس نہ تھے
 بہندی کران۔ پیچھے پانچ سپدہ آئندہ بہ تہمہ منہ بزدکانہ فکر وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اضْذَنْ لِي
 وَلَا تَفْتِنِّي سہو منہ تھو منزہ ہتھو سہو شخص بہ ہم دون مہ دیو حض اجات مہ منہ تراوہ خرابی اندرمہ منہ
 حض سحر وزومہ جن کسین زمان ہیدہ سیدہ گرفتار بلا آلا فی الفتنۃ سَقَطُوا دارہ لو زو تم ہجہ تیس
 بلا یہ منزہ ہستی۔ سہو کبیرہ نافرمانی ہنز بلا ی کیا زہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنزہ نافرمانی بہ کفر ہ خود
 ہجندہ بہ کانسہ خرابی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ پز پانچ جہنم ہتھو کافران بہ نافرمانی احاطہ کرہ
 ان إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُؤُهُمْ ہر گاہ توبہ کانسہ رت چیز اوہ اتان ہتھو، ر ژحالتا ہیدہ سپدان
 ہجہ تین ہتھو بہ ناخوش یوان وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ ہیہ ہر گاہ توبہ واتان ہتھو کانسہ غمناہ يَقُولُوا
 قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ دنان چہ تم تہہ آسہ ہجہ تین کوم برو نٹھی پونٹلو مژ۔ پان تین
 ہجو مت وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ قَرِحُونَ ہیہ ہجہ توبہ لغہ نیران بہ گلاخان، خوشیہ ماران بہ شادیانہ کران۔

أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِإِلَهِهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
 إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۱۳﴾
 فَلَا تُجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
 بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۴﴾
 وَيَجْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لِينَكُمْ وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ
 يَفْرُقُونَ ﴿۱۵﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا مَغْرِبًا أَوْ مَدْخَلًا
 لَوَكُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ﴿۱۶﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ

اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِإِلَهِهِ وَبِرَسُولِهِ کا نہ چیز چھوٹے منع کر ان جہد خیرات و صدقات قبول کرنے لگی۔
 مگر یہ ہے بوڑھی چیز کہ تمہو کو انکار معبود برحق ہے جہد س پیغمبر س وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا
 وَهُمْ كُسَالَىٰ یہ جہد تم نماز پر ان مگر کما تہ سان وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ یہ جہد
 تم مال خرچ کر ان مگر ناخوشی سے كَلَّا تُجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ توبہ سے این جان تہ عجیب
 نوز تہ جہد مال یا تہ ہر اولاد یہ جہد ہر خطرہ نعمت جہد بلکہ جہد عذاب إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑھان مگر لی زہ تم تہ مال سے تہ اولاد ان تہ تہ سے عذاب
 گز تہ کزن دنیا چہ زندگی اندری وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ یہ تہ ان جہد زو مگر سی اندر یعنی
 تم مزن در حالت مگر وَيَجْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لِينَكُمْ وَمَاهُمْ مِنْكُمْ یہ جہد تم قسم ہا ان خدایہ سے جہد
 پیٹہ کہ تم جہد توی منزہ حقیقت جہد کہ تم توبہ منزہ جہد وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ مگر تم جہد
 جماعتہا بزدل۔ کھوڑان توبہ۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا مَغْرِبًا أَوْ مَدْخَلًا ہر گاہ تم تہن کا نہ
 چھین جایاہ یا کا نہ سر تاباہ تہ گویاہ یا کا نہ اڑج جایاہ لَوَكُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ضرور ڈورہ تہن تم
 جانن کن دورہ تہان وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ یہ جہد تہو تہو منفقو اندرہ تم توبہ طعن

فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا
 مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿۵۱﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۵۲﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
 وَالْمَسْكِينِ وَالْعَبِيدِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَكَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۳﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ

دوان بچہ صد قاشم ماس تقسیم کرئس اندر دنان بچہ نعوذ باللہ اے جس تقسیم اندر آؤ نہ عدل کرن
 قَانِ اُعْطُوا مِنْهَا رِضًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ئس ہر گاہ تمں جنزہ خواہے مطابق
 کہتہ عطا پیہ ہا کرن تلہ گوہر ہن تم خوش بلہ نہ تمں جنزہ خواہے مطابق آؤ عطا کرن۔ لہذا بچہ تم بے
 زار نہ ناخوش وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ہر گے تم راضی سپدہ ہن تمہر سیت پیہ
 تمں خدا ئن نہ جنہر پیغمبرن دژود وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ پیہ ہر گاہ
 تم ونہ ہن ئس بچہ اے پیہ اللہ تعالیٰ اُن اے عطا کور ہن فضل پیہ جنہر پیغمبرن اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ
 اس بچہ گوڈہ بیٹھے اللہ تعالیٰ اس ئن راغب سپدہ ون۔ ئس ئس بچہ اس امیدوار اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ
 لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَبِيدِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَكَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ صدقات و خیر ائن ہند مال بچونہ مگر محتاجن ہندہ خیر ہ پیہ مسکین ہندہ خیر ہ پیہ
 صدقاتن ہند مال وصول کردہ و ئن ہندہ خیر ہ۔ پیہ ہند دل اسلامس ئن مائل کرن آئن۔ پیہ غلامن
 جنزہ گردنہ آزاد کرن خیر ہ۔ پیہ قرضدان ہندہ خیر ہ۔ پیہ خدلیہ سزہ و پیہ اندر جلا کردہ و ئن ہندہ
 خیر ہ پیہ مسافرن ہندہ خیر ہ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہوی بچہ فرض نہ مقرر کرنہ

النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ اذُنٌ قُلُّ اذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ مِنْ
 بِاللهِ وَيَوْمَ مِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ اٰمَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾
 يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ
 اَحَقُّ اَنْ يَرْضَوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا
 اَنْهُ مِنْ يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

آمت خدایہ سیدہ طرفہ۔ اللہ تعالیٰ بخوبی پارزنہ ان حمد و دل و منہم الذین یؤذون النبی تمہ
 من اتوا اندرہ بہ حصہ بعضی سم تکلیف بہ حصہ و اتوا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ و یقولون ہواذن ذپان
 بہ حصہ نوز بالہ کننہ نیڈ سارنی ہنزن کن تھوان۔ لہذا ہجو تھن ایزونتھ دھوکہ ذین آسان قُلُّ تہہ
 فرماؤ کہ کچھ اذُن خیر لکم تم بہ حصہ تہیدہ خیرہ بہتری سارنی کن تھوان تھن بہ حصہ فجرہ تران تہہ
 شخص کہہ سکتھ بہ حصہ تھوان۔ مگر تم بہ حصہ تہزہ فریب کاری پینہ چشم ہاشی کران۔ تم ہنزن کنن ایمان
 اندون بہ حصہ یؤومن یا اللہ بلکہ تم چھ خدایہ پاکہ سیدس کلام پاکس ایمان اتان تہ یقین کران
 و یؤومن لِلْمُؤْمِنِيْنَ یہ حصہ تم بالیمان ہنزن کنن سمہ ایماندارانہ تہ نکلصانہ آسان بہ حصہ ایمان
 اتان تہ یقین کران وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ اٰمَنُوا تھہ حصہ تم مہربان تھن بہ حصہ خیرہ سمہ ایمان
 اذون توبہ اندرہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ یہ سم لو کہ ایذا تہ تکلیف و اتواذن
 تکھوسیت تہ خبر خدائس تہیدہ خیرہ بہ حصہ تھذ ر عذاب یَحْلِفُوْنَ بِاللهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ تھہ حصہ
 ہوان خدایہ سید توبہ تہ دوتھ کنن تہہ راضی کرنہ خیرہ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يَرْضَوْهُ اللہ
 تعالیٰ تہ تھہ تہ خبر چھو زیادہ حق تھوان تم کیاین راضی کرنہ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ہر گاہ سم پز
 پا تھہ بالیمان آسن اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنْهُ مِنْ يُحَادِدِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ ایا تھن بہ حصہ تھزہ و لیس اکھاہ مخالفت
 تہ مقابلہ کرہ خدائس تہ حصہ س تہ خبر س سیت۔ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا بیشک جہندی

خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿۱۳﴾ يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ
 أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
 قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مِمَّا تَحْذَرُونَ ﴿۱۴﴾ وَلَئِنْ
 سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ يَا اللَّهُ
 وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۵﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ
 كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ
 نُعَذِّبُ طَآئِفَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۶﴾ الْمُنْفِقُونَ

خطیرہ ہتھیار جہنم سے منتر تین ہمیشہ روزت عذابس گر قد سپن آسہ ذلک الخیزی العظیم کھنکے کھیے
 بد خواری یحذر المنفقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم کھوڑان ہجہ
 منافق مسلمان پیٹھ گوہنہ بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانہ سورہ شریفہ یا آسہ کریمہ نازل سپن
 نس تین خبر کرہ منافق ہندن دلن ہزن کھوڑہ کھنکے ہنز قلی استہزءوا ان اللہ مخیر
 ما تحذرون خہ فرماو کہ خہ گوہو ٹھنہ کران۔ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ تراوہ تھہ ساری تھہ خہ
 کھوڑان ہجہہ ولین سالتہم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب ہر گاہ خہہ پر ڈھیا کہ کہ سمہ کھہ
 کیاہہ آسہہ خہہ کران ضرور دن تھہ جواب کہہ اس آس نہ مگر کھہہ ہاتھہ ٹھنہ ٹھلاہ کران۔ آسہ اندرہ
 اوسہ آسہ حقیقی معنی مراد قلی ای اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزءون خہہ فرماو کہ کیاہہ خدائس
 یہہ جہدین آیاتن یہہ جہدس تنغیرس نسبت آسہہ خہہ ٹھنہ کران لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
 دوآن مہ کمر و سم بے ہودہ نہ لغو عذر نہ ہمانہ۔ تھن توبہ کورہ کھرا ایمان ظاہر کرنہ پتہ۔ ان نعت عن
 طائفۃ منکم نعتب طائفۃ یا ایہہ کانوا مجرمین ہر گاہ اس معاف کرو توبہ اندرہ
 اکس جماعتس سم جرمس پیٹھ نام نہ پشیمان سپن مگر میں جماعتس کرو ضرور عذاب۔ کیاہہ تم زود

وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ
 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا
 اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۶۶﴾ وَعَدَّ اللَّهُ
 الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَلْعَابُ الْمُقِيمِ ﴿۶۷﴾
 كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ
 أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ

بدستور مجرم کران۔ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ منافق مرد و منافق زنانه محمد اکھ
 اکس ہی نفاس اندر۔ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ محمد کائین ہند جہہ لو کن
 صلاح دوان۔ مکر و مخالفت اسلام جہہ لو کن تعلیم دوان۔ رشوکا میو ایمان نہ متابعت نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نہ جہہ پھر ان نہ پتہ رہان وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ مؤجہہ ہند جہہ و پتہ تھوان۔ خدایہ
 سزہ و نہ اندر جہہ کہینہ نہ خرچ کران نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ تموشرو و خدال فرمانبرداری نہ کرنہ
 سیت۔ نس مشراو تم نہ خداین پنہ نیولطف و مہربانی نہ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پڑپاٹھ ہم
 منافق جہہ سینہاہ سرکش نہ نافرمان وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
 فِيهَا وعدہ کور اللہ تعالیٰ ان منافق مردان یہ منافق زنان یہ نہ و انہ کافران نار جہنمک، جہہ منز تم
 ہمیشہ روزان ہئی حَسْبُهُمْ سؤی نار جہنم جہو تم نَس وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ تم کر
 اللہ تعالیٰ ان دور پنہ رحمت نہ۔ یہ جہو جہدی خیطرہ ہمیشہ روزہ ان عذاب كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ای میٹھو جہہ جہو تم لو کن ہی ہم توہمہ بردتھ

بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ
 وَخُصَّتُمْ كَالَّذِي خَاصُّوا بِأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۱﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ
 نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۙ وَقَوْمِ
 إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمُ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

گڈرے۔ تم آپ طاقت و توانائی کن تجربہ خود زیادہ یہ آپ تجربہ خود زیادہ مالہ کن یہ اولادوں کن
 فَاَسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ پس کل تموتع نہ فایدہ چند نصیب موجب فَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ خبر
 یہ حکومت چند نصیب موجب۔ کَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ یہ پانچ قوموتع کل چند
 نصیب موجب ہم توہم بروتھہ آپ وَخُصَّتُمْ كَالَّذِي خَاصُّوا خبر یہ ژاوا پچھ کامن اندر تھے پانچ
 تھے پانچ تم ژاوت آپ اُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یہ لو کہ گے تم سمن ہنزہ
 رژہ عملہ ضائع کیہ دنیا س اندر نہ آخر س اندر نہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ یہ حصہ یہ تاوان ژد
 دنیا و آخرچہ راحت و آرامہ بشر محروم أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ
 وَقَوْمِ إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ کیاہ سمن چھنا واژ مژ تھن لو کن ہندہ گنج خبر
 ہم یمن بروتھہ آپ، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، یہ قوم ابراہیم۔ یہ شہر مدینہ کین لو کن،
 یہ قوم لوط سمن ہنزہ سمن تلک پیچہ سہد أَتَتْهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تھن بشر یہ آئے چند خبر
 خبر ذلیلہ ہتھ۔ مگر تمہو کرنا فرمائی تھی نافرمانی سیت گئے نہ بادی ہلاک فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ
 كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لہ نہ بادی سیت کور نہ اللہ تعالیٰ ان تھن پیچہ کہہ نہ ظلم ہم آپ پنہ نین پان
 پیچہ پانے ظلم کران، خدایہ سز نافرمانی کرنہ سیت۔ سمن مناطھن ہندہ گوجہ کھوژان اتھہ عدائس
 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بِالْإِيمَانِ مَرَدِيَةً بِالْإِيمَانِ زَانة ہم حصہ اژ اژین ہندہ

يُطْلَبُونَ ۝ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

دینی رفیق = دوست یَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہم صحیحہ رٹن کا میں ہند
امر کران، صحیحہ کامیو لہر پتہ رہان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ یہ صحیحہ تم نماز
برپا تھاوان یہ زکوٰۃ لو اکران وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ صحیحہ مانان خدا لہر سید یہ جمہدس پنجمبرہ
سہ۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ سے لو کہ گئے تم میں پیٹھے ضرور اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ یہ اللہ تعالیٰ محو سیٹھاہ غالب سیٹھاہمہ دول وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وعدہ کور اللہ تعالیٰ ان با ایمان مردن = با ایمان زمانن تمن جنٹن ہند سمو
منز جو یہ پکان آسن خَلِيدِينَ فِيهَا تمنی جنٹن منر روزان ہمیشہ وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ یہ نفیس نفیس مکان
ہند فی جَنَّاتٍ عَدْنٍ ہمیشہ روزہ نہ کن جنٹن منر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ یہ رضامندی اللہ تعالیٰ
منر۔ سمو صحہ ساروی نعموا اندرہ ہذ نعمت ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ حکمہ مکید ہذرتگاری = کامیابی
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ ای پنجمبر بر حق جہاد کر و کافران = منافقن
سیٹ۔ یہ کمر و درشتی = سختی تمن پیٹھے وَمَا أَوْهَمُوهُمْ وَيَشْرِبُوا الْبَصِيرَةَ جہنم کا زاہ صحیحہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِهِمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّ الْبَصِيرُ ﴿۱۲﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَتُّوا بِهَا لَمُ يَنَالُوا وَمَا نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَعْنُتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَوُوا

جاہد چھ سو جہدہ واسطہ خطیرہ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ہم منافق چھ قسم ہوا ان خدا پر سُنَدِہ اُسہ دون نہ تمہہ قسمک کہہنہ سنیوک توہہ پیغام دوت۔ مثلاً یہ کہتے کہ تم آس زبان اس کروں شہید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بیشک دہہ تموگھر چہ کہتے چھ لفظ نسبت بذاتِ مقدس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جہدہ کملک ارادہ کرن۔ یہ ہہ گوگھر ی وَكُفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اسلام ظاہر کر تھے کوز کہ گھر وَهَتُّوا بِهَا لَمُ يَنَالُوا یہہ کر یو کہ قصدِ تمہہ گوی یہ نہ حاصل سہد کہ۔ جنگِ تبوک کہ رعبہ واپسی آندر کرن کہ قصد بے خبری آندر نی کر تمس پیٹھ حملہ گھر تھے جہدہ شاد تک۔ مگر تھے منز سہد ناکام۔ تمہہ ساتھ آس نبی کر تمس سیت حذیفہ بن یمان یہہ عمار بن یاسر۔ لشکرہ رعبہ الگ سہد تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ کوہہ توٹھے آس حُرَن یڑھان۔ باہ شخص منہ لٹھو اندرہ ہم نقاب پاش آس، مٹھنہ کانہہ تمہن پر ڈہ ناوہ ہل۔ تم دورے سمن ترین صاحبین پتہ۔ چنانچہ عمار بن یاسر کو رتموگیر۔ حذیفہ بن سلمان زود جہدہ بن دوشن ہمہ چارٹ ڈگان۔ نوتان تم ساری ٹل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمویو تمہن بہن ۱۲ شخص ہمہ ناؤ پتہ نین دون رفیقن۔ مگر فرمویو ہچھ وئن گورہ نہ کانہہ۔ وَمَا نَقَبُوا إِلَّا أَنْ أَعْنُتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بیہ ہوت نہ سمنو کتہہ چیزک انتقام مگر سہہ گوی کہ اللہ تعالیٰ اُن ہہ جہدہ پیغمبرن بیا کتر ہم منافق مالدار ہہ دولت مند پتہ فضلہ سیت۔ تمہہ گوی بدلہ چھہ ہم ہوران۔ خدا نھس ہہ رسولس سیت دعا بازی کران فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَوُوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نھس ہر گاہ تم منافق توہہ

يَعْدِبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ
 فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۵۲﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن
 اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۵۳﴾
 فَلَمَّ اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَكَّلُوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۵۴﴾
 فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهٗا بِمَا اٰخَلَفُوْا
 اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿۵۵﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا

کرن، ستمو حراکاتو لہو بازم، بھدق دل سہن مسلمان یہ گوہر جہدہ غیظہ بہتر۔ ہر گاہ تمہہ نشہ
 زوگردانی کرن بدستور روژن دعا بازی کران اللہ تعالیٰ عمرہ علیہ تمن سخت عذاب دنیاوس اندر یہ
 آخرتس اندر یہ **وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ** یہ بخونہ تمن تمام روی زمینس اندر کانہ
 دوستانہ کانہ مددگارو۔ **وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ**
الصّٰلِحِيْنَ ستمو مہینو اندر ہجرت تم ستمو خدا نہس سیت عمد کورمت اوس زہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ اسی عطا کرہ
 بچن فضل یعنی مال و دولت اس کرو ضرور خیرات و صدقات یہ بخواس نیو کارواندرہ **فَلَمَّ اٰتٰهُمْ**
مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَكَّلُوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ اذہ علیہ اللہ تعالیٰ ان عطا کور تمن بچن فضل یعنی مال ستمو
 منز کوز کہ غل۔ یہ بجز کہ تھ۔ تم آس ہمیشہ تھ بھرہ دلی **فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَى يَوْمٍ**
يَلْقَوْنَہٗا نہس دلچھ اللہ تعالیٰ ان سزاتمیک۔ ہفاق تروان جہدین دلن اندر تھہ دو نہس تان ستمہ دوہہ
 تم نہس ان عودھن یعنی مر نہس و نہس تان **بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ** اکی سبہ کہ تمبو کور خلاف تھہ
 وعدس نہس تمبو خدا نہس سیت کورمت اوس۔ اگرچہ سو وعدہ اوس کورمت تمبو نبی کریمس سیت صلی اللہ
 علیہ وسلم۔ مگر تمن سیت عمد کرن گو خدا نہس سیت عمد کرن **وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ** یہ اسی سبہ کہ
 تم آس ہمیشہ اپڑوان **اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ** کیاہ تمن جھنات کج خبر کہ اللہ
 تعالیٰ جھوزانان جہد سر، رازہ۔ یہ تہزہ کن تھہ، یہ یہ تھہ کہ **وَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ** اللہ

خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرَهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ
 حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿۸۱﴾ فَلْيُضْحِكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۗ
 جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ
 مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُواكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا
 وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقَعْدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

وہ اندر ایک باعث سپہ تین زہ (۲) چیز۔ اکھ ظریبہ آرام طبی وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ میں لوکن
 یہ لگب وئہ نہ نیر ویشہ تیز گرمی اندر جہاد کرنہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا تھی فرمادو کہ جہنمک نار
 جھو زیادہ گرم ہے چہ گرمی خوتہ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ کیاہ جان اوس ہر گاہ تین زائن جھو ہا
 فَلْيُضْحِكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا نہیں آسجن تم و نیاءس اندر کہہہنہ کالاہ۔ دنیاہک مدت جھو کمی۔
 و دتن دار نہیں کالس آخرس اندر۔ جتہ جھو تین ہمیشہ و دتوی۔ جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تین جھو
 کائین ہدل یمہ کامہ تم کران آس و نیاءس اندر، مگر، نفاق مخالفت۔ علیہ جہد حال توہہ معلوم سپہ قُلْ
 رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ نہیں ہر گاہ اللہ تعالیٰ دانہس یہ توہہ مدینہ شریفس کن، توہتہ واتا وہ
 توہہ سہو منافقو اندرہ جہاتس کن قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ لِلْخُرُوجِ توہتہ سکن تم اجازت جہادس اندر
 توہہ سیت نیر نہ خیطر ہ۔ برو شمس الزامس زفغ کرنہ خیطر ہ۔ سوتہ آس نہ بہ نیک نتی بلکہ آسہ جہدس
 و کس اندر یو ہے خیال زہ وقتہ وزہ کانہ بہانہ کرتہہ روژن ہتہ قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا
 مَعِيَ عَدُوًّا تہہ فرمادو کہ تہہ جھوہ زمانہ سازی موجب تہہ کران مگر اللہ تعالیٰ ان کمر جہدس کن و لکن ہتہ
 خیالات ظاہر۔ چنانچہ پورہ اعتمادہ سان جھو سوتہ و مان کہہ تہہ نہ نیر وئہ وقتہ جہادس اندر مدد کرنہ
 خیطر ہ۔ یہ نہ کمر و تہہ لڑای میانین دشمن سیت۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقَعْدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ توہہ کوردہ
 ناگوزہ خیطے گرہ بہوی ہتہ۔ و نکلس یہ جھو سوارادہ۔ یہ جھوہ سوزوی زیوہ سیتہ و مان فاقعک و امعہ

فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ۖ وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ
 أَبَدًا ۖ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَابُوا
 وَهُمْ فَيُقُونَ ۖ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ

الْخُلَفَاءِ ۖ نِس بسو بردھم پانچ آہن نشہ یعنی تین نشہ سم پتھ روز نِس سزاوار تھہ۔ زناتہ، شریعت بدہ
 وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ۖ یارسول اللہ تمہو مینا تھو اندرہ ہر گاہ کا نہ عمرہ جہدس جنازس پیٹھ نہ
 ہز آسو نماز جنازہ پر ان ۖ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ بیہ نہ آسو تھزہ قبرہ پیٹھ سو ذفن کرنہ خیطرہ وودن روزان
 إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کیا زہ تمہو کور کھر نہ انکار اللہ تعالیٰ اس پیہ جہدس پیٹھ برس ۖ وَأَنَابُوا وَهُمْ
 فَيُقُونَ ۖ بیہ سو دم کھر س پیٹھ۔ نِس کھرہ کس حالس پیٹھ مرہ، تسبہ خیطرہ دُعا و استغفار مٹن۔
 تھمبوس کھس د کھس شامل سدن ہتھو ناچائیز۔ سمہ آئیہ کر سٹگ شان نزول ہتھو کہ یلہ عبد اللہ بن
 ابی سناقن ہند سر دار سو، تھمبہ پٹھو نِس ناؤ اوس عبد اللہ بن عبد اللہ آؤ در خدمت رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم سو اوس مخلص مسلمان۔ تم کور عرض پن قمیض مبارک دیو حض سو تراؤو تھمبوس کھس سیت۔
 چنانچہ تمہو ذیت پن قمیض مبارک نِس حمہ ساتہ تھن نال اوس بیہ نیو کہ تشریف تھمبہ گھرہ۔ تھمبوس
 ترود کہ پن لعاب دہان مبارک آس منز۔ تو پتہ پور ہس نماز جنازہ۔ بیہ کور ہس دُعا ہی مغفرت۔ تھی
 ساتہ سہ پیہ آئیہ کریمہ نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھمبوس معاہدہ کور عبد اللہ بن ائیس سیت تھمبہ اندر
 آسہ واریاہ کھو۔ چنانچہ امیک نتیجہ در او زہ واریاہ کو کہ سہ مسلمان پیہ و چھت۔ تمہو ڈوپ کہ پیہ پیٹھ برس
 بر حق ہتھو دشمن سیت امہ تھمبہ مہر و محبت سلوک کران۔ ذوستن نہ با ایمان سیت آسن زیادے
 لطف و مہربانی کران۔ بیہ نندو تمہو پیہ کرنہ سیت شریعت اسلامیک اکھ بوڈ مسئلہ۔ سو گوئی زہ ایمان و
 عمل صالحہ و رای دیہ نہ کاسہ اکس کا نہ چیز او فائیدہ نہ ٹو سل نہ ٹھر کہ۔ تمہو فر سو گو پیٹھ بو امام آسن،
 صحابہ صیب مقتدی آسن تو پتہ ہر اسہ نماز جنازہ عبد اللہ بن ائیس پیٹھ۔ بیہ سوگ امہ جہدہ خیطرہ
 مغفرت۔ بیہ آؤ تراؤنہ میون قمیض جہدس کھس سیت۔ بیہ آپر مہ کھس پن لعاب شریف نِس جہدس
 بد نِس منزوت۔ باوجود آں ہتھہ جای تھز فی الدرک الا سئل۔ جہمہ کس ڈ کس نکل۔ ام میان نماز

اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۷﴾
 وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ
 اسْتَأْذِنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لِنُكُنَّ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۵۸﴾

جنازہ پر ان۔ دُعاء مغفرت کرہ ان قمیض مبارک کھنس سیت تراون۔ اعاب شریف بدنس منزواتا وہ ان کو رس نہ کا نہ سوچہ۔ سہو چیز و دیوس نہ کا نہ فائیدہ۔ ای گواہ تھان یاد تہن لوکن ہند یم ڈھرو دی دعویٰ جہہ دو ان نبی کریم سیدہ ٹھنک مگر ایمان و عمل نہتھ شوہہ ہائیمہ نظیر جہہ خالی۔ یہ تم ہتھہ آئی، توحید و سنت تمہہ نظیر جہہ بے بہرہ نہ عاری۔ نس شخص عمر روزہ کر ان جہنہ مخالفت نس روزہ خیال بہرہ کرن تم شفاعت یہ گو محض شیطانہ سید ڈھوکہ۔ اتھہ نہ تی یہ عبد اللہ بن ابی س جیو و جہہ شفاعت کرہ ان دمت نہ نس کا نہ نفع نہ فائیدہ۔ لہذا ہتھہ سخت ضرورت نجات حاصل کرنہ خیلرہ ایمان و عملہ ہنہ۔ ہتھہ پانچہ گواہہ زان تہن لوکن ہند سم بزرگن اولیاء اللہن کن ایمانہ و عملہ و رای پانس نسبت کر ان جہہ تہن خدایہ سندین نا ٹھنہ نہ محبب ہندان کن سہو پتہ عمرہ ہتھہ صرف کرہ مشرہ کتاب و شمس پیٹھہ عمل کر نس اندر۔ جاہل لو کہ کرن مخالفت کتاب و سنت تمہہ پتہ روز کیہ خیال آسہ کرن تم خدائس لہوہ سفارش یا شفاعت۔ ایس خیال است محال است و جنون وَلَا تُصِيبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ جہن مال و دولت یہ گھبر نہ ہن تراون توہہ تجیس اندر کہ ہتھہن نا فرمان ہتھہ پانچہ جتھو اللہ تعالیٰ دنیاء س اندر سمہ نعرہ عطا کر ان سمہ نہ حض ہتھہ بہیدہ خیلرہ نعرہ ہتھہ سم چیز بہیدہ خیلرہ عذابک سامان ﴿۵۷﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ جتھو نہ یڑھان مگر تہن سہو چیز و سیت گر فتر عذاب کرن وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ یہ گواہہ تہن ڈو تہن عمرہ کس حائس اندر۔ سمہ سیت آخر نس اندر نہ سزوار عذاب روزن وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ علیہ علیہ وقتہ قرآن مجیدک کا نہ جہہ نازل یوان جتھو کرنہ ہتھہ منز یہ مضمون جتھو آسان کہ پڑھہ سمر و کھنس معبود ہر کھنس خلوص دل۔ یہ نیر و جہاؤس جہدس سبب سیت سیت اسْتَأْذِنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لِنُكُنَّ مَعَ الْقَاعِدِينَ اجازت جہہ منکان توہہ تمہو اندرہ مال دار لو کہ۔ دپان جہہ آسہ تراوہ حض ہتھہ۔ اس

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
 فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۸۵﴾ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
 جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرُ
 وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُنْفِلِحُونَ ﴿۸۶﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۸۷﴾ وَ
 جَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ
 كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

روز چھ روزہ و نین سیت رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
 کا تھ شرمہ ہنز کتھ ہتھ کج تم لو کہ سپر ضامنہ گمرن اندر زمان سیت روز نس پیٹھ۔ جہدین دن پیٹھ
 ہتھ مہر آمز کرنہ۔ تمی ہتھونہ تمین فکری تران لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
 وَأَنْفُسِهِمْ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہم با ایمان تمین سیت ہتھ تمومون حکم خدا
 تمبو کور جہاد مال و جانہ سیت وَأَوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرُ وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُنْفِلِحُونَ یعنی لو کن ہندہ خیطرہ
 ہتھ سارے خوبہ سے لو کہ ہتھ کامیاب = رستگار۔ سہ خوبی = کامیابی کنیہ۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّةٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ تعالیٰ ان ہتھ جہدہ خیطرہ تمی باغ تیار تھاوست سمو
 منز جو یہ پکان آسن۔ تمینی جہنمن منز روزن ہمیشہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ حکے کنیہ ہڈ کامیابی و جَاءَ
 الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ یہی آئی کہہند نہمانہ باز لو کہ گامو پیٹھ۔ ہتھ تمین گمرن اندر بہند
 خیطرہ اجازت لیہ دنہ۔ جہادس سہدن نہ تم شامل وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہی بیٹھ گمرن
 منز تم لو کہ سمو ایمانہ کس دعویٰ اس اندر خدا نس = پیٹھ برس سیت بالکل اپزوست اوس۔ تم آئی نہ
 عذر پیش کرنہ = سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تموا اندرہ ہم آخرس جان گرس

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا
 عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا انصَحُوا لِلَّهِ وَ
 رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَمْ يُحْمَلْهُمُ قُلُوبُهُمْ
 مِمَّا أَحْمَلَهُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ
 حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
 يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا

پیشہ روزان۔ تمن واپہ آخرتس اندر دگ = دودنگہ وان عذاب۔ سم تمواندرہ توبہ کران باخلاص دل
 مسلمان سپدن تم تمن تمہ عذابہ نشہ نجات لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی ولا علی الذین لا
 یجدون ما ینفقون حرج اذا انصحو للہ ورسولہ کم طاقت لو کن = بیازن = بیہ نہ تمن لو کن
 یکن نہ خرچہ خیرہ کینہ موجود ہتھو ہتھونہ کا نہ گناہیہ تمن خیر خواہی = خلوص آسہ خدائس = جہدس
 پیغمبرس نسبت ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم تمن نیکو کارن پیٹھ ہتھہ کا نہ
 وتھہ اعتراض کرئج اللہ تعالی ہتھو بوڈ مغفر = دول بوڈ رحمت = دول۔ ولا علی الذین اذا ما اتوکلو
 لیمحملہم قلت لا اجد ما احملم علیہ بیہ ہتھونہ تمن لو کن پیٹھ = کا نہ عٹناہ = الزام۔ علیہ تم توبہ
 نش آئے توبہ کیمہ سوار یو جہدہ سوار ی ہند انتظام۔ توبہ فرمود کہ میہ نشہ ہتھونہ کا نہ چیز ہتھہ پیٹھہ توبہ
 سوار کردہ تولووا و اعینہم تفیض من الدمع حزنا الایجدوا ما ینفقون تم درای وائس توبہ
 ہتھہ ہتھہ جالس اندر کیمہ لہتھہ جہزہ آسہ اوش ہاران یی غمہ موکھ کہ یکن سپد نہ میمانہ پیٹھہ جاییہ نہ بیہ علیہ
 جاییہ خرچہ خیرہ ہکیمہ مال ئس سم ہتھہ جہادس منز صرف کرہ تمن۔ تمن = ہتھونہ کا نہ عٹناہ إِنَّمَا السَّبِيلُ
 عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ئس الزام = گناہ ہتھو تمنی لو کن پیٹھہ سم مالدار آہتھہ توبہ

مَعَ الْخَوَافِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾
 يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا
 تَعْتَذِرُونَ وَالنُّؤْمِنُ لَكُمْ قَدْ بَيَّأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَ
 سَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ
 لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ

جہادس نہ نیر نہ خیلرہ اجازت مکان جہر رضوایان یکنووا مع الخواف شرم بھہ جہدہ
 خیلرہ تم سہد راضی زمان سیت روز نس پینہ و طبعہ اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون اللہ تعالیٰ ان
 بھہ موہر کمر مژ جہدین دن پینہ سمہ سو کہ تم زان بھونہ مکان ثواب کتھ منز بھوہ عشاہ کتھ منز
 بھوہ۔ **يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ** ہم لو کہ کرن عذر تہ بہانہ توبہ ہش، علیہ والنس
 گرو صو تین ہش۔ **قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ وَالنُّؤْمِنُ لَكُمْ** لہذا فرماؤ کہ تجہ بہانہ تہ عذر نہ دیو۔ اس ہر گز
 جہدس ونہ نس پھہ گرونہ **قَدْ بَيَّأْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ** بیشک آسہ کمر خبر اللہ تعالیٰ ان جہدین اصلی
 حال اتن ہنز کہ جہد کا نہ عذر اوس نہ پوز تہ صحیح۔ **وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ** یہ تہ وجہ آیندہ
 اللہ تعالیٰ یہ جہد پیخبر جہزہ کامہ۔ سمہ سیت معلوم سپدہ توبہ اندر کوتاہ اخلاص تہ فرمانبرداری بھہ
ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو پتہ ایو تجہ والنس نہ نس
 پروردگار س ہشہ نس سوزی پوشیدہ تہ نون زان دن بھوہ۔ نس گروہ سو توبہ خبر تمین سارنی چیزن ہنز سم
 تجہ کر ان آسہ تو پتہ دیوہ گمز اور **سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ** دون بن
 تم توبہ ہشہ تو پتہ ہان تم قسم خدایہ سد علیہ تجہ والنس ایو تمین کن۔ بھہ تجہ در گذر کمر و تمین ہشہ
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ نس کمر و تجہ تمین ہشہ در گذر۔ تم تراؤ کہ پتہ نس حالس پینہ۔ ہر پانہ
 تم جہہ کمر تہ گندہ۔ **وَمَا أُوذِهِمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** جہنم انجام بھوہ سیشاہ خراب۔ چولا کہ

أَنَّهُمْ رَجِسٌ ۖ وَمَا أُوْبَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ أَيُّهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹﴾
 يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ
 لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۰﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ
 نِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ
 رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ
 مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمُ

ہفتوا ان تین جہنمس اندر۔ یہ ہفتو تین سزا تین کا تین ہند سمہ تم کران آس۔ نفاق = خلاف وغیرہ
 یَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ سم قسم، جھبہ تم ہوان توبہ برو تھ کتہ تھ تھہ راضی گوہو تین بھو۔ اول
 گوہنہ خدلیہ سندین دشمن بھو راضی سپدن۔ بالفرض ہر گاہ تھہ تین بھو راضی سپدو۔ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ہر گاہ تھہ جہنہ یو ایز یو قسمو سیت متاثر سپد تھہ راضی گوہو۔
 مگر اللہ تعالیٰ سپدہ نہ ہر گوہر راضی تھن شریہ تا فرمان لوکن بھو الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا سم
 منافقن منزسم گامک لوکھ چھ تم چھ زیادہ سخت گھرہ کن = نفاق کن عیبارہ تم جھہ علمان
 تہ عاقلن بھو دور روزان وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ یہ جھہ تم
 اتھہ قابل یہ تم زان نہ تم احکام سم اللہ تعالیٰ ان چھ پنہ نس پیغمبرس پیچھ نازل کمرت۔ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ ہفتو سوری زندون، سینہاہ جتہ دول وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
 مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَابِرَ یہ ہفتو سمو گام۔ کیو منا تھو اندرہ بعضی لوکن گھر و نفاق و جھلہ۔
 علاوہ بخل و عداوتک صفات ہتہ۔ تمہہ جھہ زمانان خدلیہ سزہ وتہ اندر خرچ کرنس چھیٹ تہ بزمانہ یہ
 جھہ بیاران تم توبہ پیچھ پوت کھور بئس کانہ حادثہ واقع سپدنس، پیچھ وقناہ بئس عَلَیْهِمْ دَابِرًا
 الشَّوْءِ پوت کھور یہ تین پانس۔ پیچھ وقت بن تین پانس۔ زمانک حادثہ سپدہ واقع تین پیچھ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ ہفتو سوزوی بوزہ دن سوزوی زندون وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۹۸﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا
 عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۗ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ
 سِوَا خَلْعِهِمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۹﴾
 وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
 اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ﴿۱۰۰﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۗ وَمِنَ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ جہنم کا مکینہ اندرہ تم سم پور پڑھو جہنم کران کس خدا نسی۔ یہ ہمس دوئس یعنی قیاس
 وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ یہ جہنم گنزران خدا یہ سیدہ وہ اندر
 مال خرچ کر نس سیدہ قربک یہ پیغمبر خدا یہ سیدہ دعای خیرک آکھ زت ذریعہ آلا اِنَّا قُرْبَةٌ
 لَهُمْ وارہ نو زدوا قعی جھو سو خرچ کمرن جہنم جہنمہ خیطرہ قربک ذریعہ سِيدُ خَلْعِهِمُ اللَّهُ فِي
 رَحْمَتِهِ خرد وراتا وہ تین اللہ تعالیٰ پنہ نس رحمت سنز کیا زہ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ بیشک اللہ
 تعالیٰ جھو سبھاہ مغفرت یہ سبھاہ رحم کرہ وان وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
 وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ یہ سم بروئٹھ گوہ دن۔ گوڈانی مغرف
 باسلام سیدہ دن مہاجر وہ انصار وہ اندرہ۔ یہ تم لوکھ سمو جہنم بیروی کمر رہہ طریقہ۔ تمن سارنی بھوہ
 جھو اللہ تعالیٰ راضی۔ تم یہ جہنم س بھوہ راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 أَبَدًا یہ تھا واللہ تعالیٰ ان جہنمہ خیطرہ تیار تم جنت سمو منز جو یہ پکان بھوہ تمنی جتن منز روزن تم

أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَسْرُدُوا عَلَى التِّفَاقِ ۖ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ
 نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ نُخْرِجُكُم مِّنَ الْأَرْضِ عَظِيمًا ۚ
 وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا
 عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶﴾ خُذْ
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ

ہمیشہ ذلک التور العظیم کے کعبہ بڑا کامیابی سے ہمیں حوالہ سے انگریزوں سے منہ پھرنے والے
 المدینہ سے یہ ہم توبہ کے پکے گاموں پر ہندو لوگو کو اندر سے شہرہ کیولو کو اندر سے ہم منافق ہجرت مردوں
 علی التفاق۔ ڈاؤن کر تھ ہجرت نفا سے پیشہ۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم سنعذبہم مرتین تہ
 زانیہ کہ نہ تم۔ اس زانکھ تم جلدی دنو اس میں دنیا سے اندر سزا دے گن۔ تخرجکم من الارض عظیم
 عظیم تو پتہ بن تم سوزنہ آخر جس ہڈ سے عذاب اس۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا
 عملاً صالحاً وآخر سيئاً یہ ہجرت میں در ای کہہ لو کہ ہم اقرار کر پتہ میں گونہ۔ ہم ملہ ناوہ رتہ عملہ
 ہجرت عملہ سے۔ یعنی سو گوا عتراف عتابہ کرن پتہ جس کہ جس اقرار گن۔ عسى الله ان يتوب عليهم
 ان الله غفور رحيم شاید اللہ تعالیٰ کرہ جہدہ توبہ قبول۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ ہجو پیشک مغفرت کرہ
 دن سینہ ہر ہم کرہ ان۔ ہم صحابہ صیو اس ہن پان کتہ تھ تھامت مسجد شریفہ کین تھمن سے۔ ہم
 توبہ قبول سپہ ہم مزار او پتہ میں پان ہند گن۔ تو پتہ انکھ بارہ در خدمت حضرت رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم۔ اتی سپہ یہ آہ کریمہ نازل۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و تزکیہم بہا رتہ
 میں توبہ کرہ دن میں زہدہ مالہ اندرہ جس تم پیش کر ان ہجرت بطور صدقہ۔ کر یو کہ تم پاک پاکیزہ تہ
 صدقہ سے۔ وصل علیہم ان صلواتک سکن لہم یہ کمریہ کہ دعای خیر۔ ہر پانٹھ جہدہ دعای خیرہ
 سے ہجو میں تسلی سے اطمینان حاصل سپہ ان۔ واللہ سمیع علیہم اللہ تعالیٰ ہجو تہد اعتراف

اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ
 عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ وَآخَرُونَ مُرْجُونَ
 لِرَأْسِ اللَّهِ إِذَا يَعَدُّ بِهِمْ وَإِنَّمَا تُوْبُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللَّهِ وَلِلَّهِ عِلْمُ حَكِيمٍ ﴿۱۸﴾

واقرارگناہ، جہز، عداوت وارہ نوزہ وان پورہ زانہ وان اَلتَّوْبَةُ اَنَّ اللّٰهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ
 وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ کیا تمہیں جتنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ای ہتھو توبہ قبول کران پنہ نین بدن ہند۔
 بیہ ہتھو سنی صدقات قبول کران وَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ بیہ جتنا تم معلوم کہ اللہ تعالیٰ ای
 ہتھو سینہا توبہ قبول کرہ وان۔ سینہا رحم کرہ وان وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
 وَالْمُؤْمِنُونَ بیہ فرماؤ گے کہ تمہ کہ ای لو کو کران گو جو تمہ عمل، اللہ تعالیٰ ہتھو پانہ وچھان جہز عمل۔
 بیہ پتھیر جہز، بیہ بالیمان۔ پتھہ کائین ہند نتیجہ نیرہ توبہ دنیاوی اندر، ذات بیہ خواری وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ای تمہہ واثاوتہ نفس ذات پائس نشہ نفس سوڑوی پتھیدہ تہ نون زانہ وان
 ہتھو۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ نفس گرہ سو توبہ خیر تمہ ساری کائین ہنز سمہ تمہہ کران آسہ
 وَالْمُرْجُونَ لِرَأْسِ اللّٰهِ بیہ جتھہ کینہہ لو کہ پتھہ روزو نیو اندرہ ہم بیاران ہتھہ خدایہ سدس کھنس۔
 تمہ متعلق ہتھو اِنَّمَا تُوْبُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ عِلْمُ حَكِيْمٍ یا کر کچھ عذاب، ہر گاہ توبہ کر نفس
 اندر خلوص آسکھ نہ۔ یا کرہ تمہہ توبہ قبول۔ ہر گاہ توبہ باخلاص کورمت آسکھ۔ اللہ تعالیٰ ہتھو پر پتھہ
 کہند حال پورہ زانہ وان۔ نفس پتھہ خبر اخلاص وعبادہم اخلاص۔ سو ہتھو سینہا حمدہ اول۔ مدینہ شریف
 قریب ہتھو کہ محلہ تھہ ہتھو ناو "قا"۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولیدہ مدینہ شریفہ پیٹھہ
 ہجرت کتر۔ گوڑنی ٹھہرے تم اچھہ مجلس اندر۔ تمہہ پتھہ کہنہہ کالاہ گو ہتھہ انوکھ تشریف مدینہ شریفہ کس
 شہر س اندر۔ اچھس کالس اتھہ محلہ قباء س اندر قرار کوز کہ تھیس کالس ہتھہ جاءی جمو نماز پر تھہ جلیہ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ
 وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ

بنام اُمہ محلہ کیو نکلس یا ایمانو کہ مسجد اہ۔ تھ مسجد ہجرت و نان مسجد قباء اتھ محلہ منزہم مناقب بیان
 آس تمن اوس میل جول ۷ من گرومن آس شخصیت سیت۔ نئس ناداوس ابو عامر راہب۔ سو اوس
 اسلامک سخت دشمن۔ نمو مناقبو کور نئس سیت مشورہ کتر تھ اکھ کتھاہ مقرر کتھ اس ۷ بناؤد ہتھ مسجدہ
 سیت بیا کہ مسجد۔ تھ منزہم سید تھ آسوا اسلامس خلاف مشورہ کران۔ ام ابو عامر ن دون بین مناقب
 کہ یو سمکھ ہر قلنس وغیرہ بادشمن۔ تمن سیت فوج و لشکر حاصل کتر تھ تھاؤوا کے ساء مسلمان ہند
 یول گاتھ۔ تمہ پتہ بلکہ مسجدہ ہنزہ شکیہ نمو مناقبو یہ مکان بنوؤ تو پتہ آئی در خدمت حضرت رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمن کوڑ کہ عرض تھہ ابو حنی تشریف اتھ سانہ مسجدہ اندر۔ اللہ تعالیٰ ان
 کتر نازل اتھ مؤقلس پیئجہ ہم آیات کریمہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
 الْمُؤْمِنِينَ یہ ہجرت بعضی لو کہ نمو مسجد اہ بناؤ اسلامس ضرر و اتناونہ خیطرہ۔ یہ ہتھ تھ منز کتر چہ یعنی
 عداوت رسول چہ تھہ کرن۔ یہ ہتھ مسلمان منز تفرقہ تراؤن زہ جتہ کرن وَالصَّادَاتِ لِمَنْ حَارَبَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ یہ ہتھ زلیج جای بنہ تمن نئس شخصہ سیدہ خیطرہ ہم برو نخنی مخالفت کتر
 خدا نئس ۷ جمہرس پیئجہ برس یعنی ابو عامر مذکور وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ تو پتہ ہجرت ہم ہوان
 کہ اسمہ لوس نہ اتھ اندر یعنی مسجد بناؤ نئس اندر ہستہ درای کتھہ چیزک ارادہ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ خدا ہتھ گواہ کہ بیشک ہجرت ہم اپز زبیر۔ بلکہ اسمہ مسجدہ ہنزہ حالت ہجرت
 آہدا ہجرت نہ حض گوجو تھ منز نماز پرہ ہرگز لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ
 تَقُومَ فِيهِ البتہ سو مسجد ہتھ کتن آمت ہتھ ونہ گوڑہجرت دوہنہ پیئجہ پر ہیزگاری پیئجہ، یعنی مسجد قبا سو

مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
 يَتَّطَّهَرُوا لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۳۱﴾ أَفَمَنْ أَتَسَسَ بُنْيَانَهُ
 عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَتَسَسَ بُنْيَانَهُ
 عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارِيهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۲﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا
 رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۳۳﴾

جہہ سزاوار سمیہ خلیفہ کہ جہہ ہنر و تہہ منز نماز فیہ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَّهَرُوا تہہ مسجد تہا س
 منز جہہ تم لو کہ سمن پاکی چہہ سیمہا تہہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ اللہ تعالیٰ تہہ تہہ زیادہ پاک روزہ و
 نین ٹوٹھ تہاوان أَفَمَنْ أَتَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ کیاہ سُو فَخْص ہم کنن ڈیت
 پتہ بس سُرَس یعنی مسجد ہ خدا نس کھو ڈ کھو ڈ تہہ تہہ رضامندی ڈ حائڈان سُو فَخْص چہا ہتر اَمَمْ مَنْ أَتَسَسَ
 بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارِيهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ سہہ سُو فَخْص ہم پتہ گرچہ بنیاد تہہ کن و نوت
 کھو کھو ہ جہنہ کس اندس پتہہ۔ تہہ پھراٹ تہہ گامڑ آس، نس و س پتہس تیار۔ نس پو سُو و تہہ نار
 جہنمس اندر، نس تہہ منز اوس سُو تہہ پو جہنمس اندر۔ کیا زہ پہہ مکان ہلوند اندرہ اوس غرض مخالفت
 اسلام و پیغمبر اسلام۔ نس سر اسر کھر اوس۔ کھر تہہ کافران ہنز جای جہہ نار جہنم۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ تہہ تہہ تہہ ہوان تہہمن ظالمین وینہ چنن کامین کن لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي
 بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ہمیشہ روزہ یہ سُرہ نس تہہ ہنود جہدین دکن اندر شنگ سبب۔ تو پتہ بلہ سُو گرہ
 تہہم کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سُو زود لکہ دن جہدین دکن اندر۔ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ
 قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ سُو ڈ لیکنہ مگر ایک ریزہ ریزہ گشہہ جہدین دکن سُر تہہ قبرن اندر اللہ
 تعالیٰ تہہ سُو زوی زانہ دن جہتہ اول إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ
 لَهُمُ الْجَنَّةَ ہنز پانہہ اللہ تعالیٰ ان ہست منک با ایمان ہنہ جہد پان تہہ جہد مال، جہنمس بدلہ۔ خدا نس

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
 بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ
 يُقْتَلُونَ قَدْ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
 وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْقَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
 بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱﴾
 التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَمِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ
 السَّجِدُونَ الْأُمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

ممکنہ اندازہ چھو مطلب کہ تم بھیر مال پٹن سے جان بچانے خدایہ سیدہ خلیفہ صرف کران
 سبیل اللہ فیکتولون و یقتولون تم خدایہ سزہ و تہ اند جہاد کران بھیر بھیر منزلیہ وقتہ دشمن ماران
 بھیر منزلیہ وقتہ پان شہید سہان بھیر وعدا علیہ حقا اتھ جہاد و قائلس پیٹھ نئس وعدہ تمن سیت کرنہ
 آنت بھیر سو بھیر پوز وعدہ امیک وعدہ بھیر کورنت اللہ تعالیٰ ان پوز وعدہ فی التورۃ
 و الإنجیل و القرآن توراس منزلیہ، انجیلس منزلیہ، قرآنس منزلیہ و من اوقی بعہدہ من اللہ
 یہ تم بھیر مسلم کہ خدایہ سزہ خوش نئس اکھاہ بھیر زیادہ وفا کرہ ان پنہ نئس عہدس قاستبشروا ببیعکم
 الذی بایعتم بہ نئس گروہ خوش پنہ نئس بھیر سودا س پیٹھ نئس توبہ کورہ خدائس سیت۔ وذلک
 هو الفوز العظیم بکے کئیہ بڑ کامیابی یعنی جنت حاصل سہان التائبون العبادون
 الحامدون السائحون الرکعون السجدون الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون
 لحدود اللہ تمن مجاہد با ایمان بند صفت بھیر تم بھیر توبہ کرہ ان شر کہ نئس، نافرمانی نئس، تم چھ
 عبادت کرہ ان، تم بھیر حمد پون، تم بھیر روزہ دار روزہ ان، تم بھیر رکوع کرہ ان سے سجدہ و وہ ان

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ مَا كَانَ
 لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
 لَوْ كَانُوا أَوْلِيَّ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۴﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
 إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَاهَا آيَاتُهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
 لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ

یعنی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، بیہ چھ تم رٹن گھن ہنز تعلیم دوہ دن تہ بچھ گھن لشم پتھ ر لہ دن۔ بیہ چھ تم خدلیہ
 سندن گھن ر لشم کردن عملہ سیت و بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ خوش خبری فرماؤ تمین با ایمان سمن
 اندر جماؤک جذبہ تہ سم صفت آسن مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
 جائزہ گھنہ بنی کر تمس بیہ با ایمان کہ تم کیا مگن مغفرت ستر کن ہمدہ خطرہ و لَوْ كَانُوا أَوْلِيَّ قُرْبَىٰ
 ادہ استھ تم آشواوی و مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ تمین وارہ بیہ گھن نندہ پتہ کہ
 تم کیا چھ ہارک لو کہ، جمدہ کفرس پینہ مرنگہ سیدہ ہر گاہ حضرت ابراہیم سیدہ قصہ سیت خبہ سپد کہ
 تمو کیا زہ موگک مغفرت پندہ نس مال سیدہ خطرہ، تمیک جواب چھو وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ
 لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَاهَا آيَاتُهُ بیہ اوس نہ مغفرت مگن حضرت ابراہیم سندن پندہ نس مال سیدہ
 خطرہ مگر کہ وعدہ پور کر نہ خطرہ نس تمو نس سیت کورنت اوس۔ کج ذکر اللہ تعالیٰ فرماوان چھو
 ساستغفر لک رہی آسن اندر فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ ادہ بلکہ تمین نینو کہ سو چھو
 دشمن خدلیہ سندن تم سپد نس رشم ہزار۔ استغفار مگن تروو تمو کیا زہ اتھ صور نس اندر دعای مغفرت
 کزن چھو ہیکار۔ دون روز یہ گھن کہ تمو کیا زہ اوس تمس وعدہ کورنت تمیک وجہ چھو إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ
 حَلِيمٌ ہز پانٹھ حضرت ابراہیم اوس نرم دل، حلیم الطبع، ژالہ وان، ژیلڈ کردہ وان۔ باوجود بیہ تمین
 دنہ مال سخت ناگوار گھن مگر تمو ہنو مجلس کوم از نس شفقت و مہربانی کور نس وعدہ استغفار۔ سوچہ تو تھلی

لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا
يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۲﴾ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى
النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فِرْقَتِي
وَمِنْهُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۳﴾

تانبہ تان تمن امکان مغفرتی امید آس و ماکان اللہ لیضل قومًا بعد اذ ہداهم اللہ تعالیٰ
بھٹونہ ڈالان لہ قومس تمن ہدایت کرنہ پتہ۔ حتیٰ یبیین لہم مآ یعتقون یوتان تمن وارہ
بیان کران بھٹو تم چیز سمولہ تمن بچن تہ پتہ روزن آسان بھٹو إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہنز
پاٹھ اللہ تعالیٰ بھٹو پر بھٹو چیز اہ پورہ زانان إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ
پزپاٹ اللہ تعالیٰ سزنی بھٹو پادشاہت آسان تہ زمین ہنز سوزی بھٹو زندہ کران تہ ماران وَمَا لَكُم
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ہنز بھٹونہ جہدہ غیظہ خدائس ورا می کانہ دوستاہ تہ مددگراہ
لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ اللہ
تعالیٰ سپہ سوجہ رحمتہ سیت بنی کر سمس۔ تمن کوزن عطا نبوت تہ امامت جہاد۔ ہنز سارے خوبہ ہنز
کرن تمن مہاجرین تہ انصارن کن توجہ برحمت سمو جہز بیروی سمر سختی ہندہ وقتہ سہ تمن دینن توفیق
استقامتک مشقت و تکلیف برداشت کر تک مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فِرْقَتِي وَمِنْهُمْ
پتہ کہ قریب اوس کہ اکہ جماعتک دل ڈلہ کن تمہہ نشہ، جہز بیروی کرنہ نشہ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ
بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ تو پتہ پھیلا رسو تمن کن ثابت قدمی عطا کرنہ سیت کیا زہ سو بھٹو تمن پیٹھ

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
 الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنَّ
 لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ
 حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَ
 لَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ

سینہا مہربان ہے سینہا رحم کرہون وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا یہ کور توبہ قبول اللہ تعالیٰ ان
 تین ترین شخصوں ہند یہند معاملہ ملتوی اوس تھاوند آمت۔ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ
 بِمَا رَحُبَتْ یو تان تین پیٹہ زمین وسیع ہے کھول آستھ تک سپد وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ یہ آئی
 تم پانہ سینہا تک ہے عاجز وَظَنُّوْا أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ یہ زون تمبو کہ کانہہ چھمن جای
 چھند خدایہ سبہ عذابہ نہیہ چند خیلرہ کس درای تُوْرَتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا توبہ سپد سو تین کن متوجہ
 رحمتہ سیت۔ چھ تم توبہ کرن إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پز پات اللہ تعالیٰ چھو توبہ قبول کرہون
 رحم کرہون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ای بایمانو کھو تُو خدائس یہ روزو
 عملیہ اندر پھر زیارین سیت۔ یمن ہنز نیت ہے کھہ دُرست ہے پڑہ چھہ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ
 وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ شوہ ہانہ، پڑہ ہانہ مدینہ متورہ کین لوکن
 یہ تین لوکن سم لہر یکب گائن اندر روزان چھہ پتھ روزان ہے شمولیت نہ کرن چھمبر خدائس ہمراہ
 جمادس اندر نیر نہ لہر وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ یہ شوہ ہانہ تین ہن پان زیادہ ناظہ زانن چھبرہ
 خود۔ تم یلہ پانہ بہ نفس نفیس درای اتھ جنگ تبو کس اندر پتھ روزہون ہے پنہ نین پانن آرام دانہ ناوہ

ظَبًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّوُّنَ
 مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَا إِلَّا الْكَيْبَ
 لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴﴾
 وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ
 وَادِيًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَكَوَلْنَا نَفَرَ
 مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

ون۔ ہم کیا ہجرت ہمہ خود۔ ذلک یا انہم لا یضییبہم ظباً ولا نصاباً ولا مخصصة فی سبیل اللہ
 ولا یطؤون موطئاً یغیظ الکفار ولا ینالون من عدوینا الا کایباً یہ تم سبب شمولیت کرن اس ضرور
 سمہ مکتبہ کہ اتھ اندر اوس آکھ عجبت پیغمبر خدا تک حق او اکرن تمہ علاوہ سمہ سمہ مر بانیہ نہ ثواب
 مجاہدن حاصل سہزہ تمہ نہ سپدہ تمہ مر بانیہ حاصل۔ چنانچہ تمہ دوت نہ کانہ تکلیف خدیہ سہزہ
 وہ اندر۔ تمہ لجنہ تریش۔ یو ہجرت۔ تم یک نہ مند وہ مگر بشان دشوکت۔ سمہ سبب کافر نژ کہ کھنہ نہ وانج
 دہ تمہ یہ کور نہ ہو حاصل دشمن نہ کانہ چیزہ
 الایب لہم بہ عمل صالح مگر سمو
 ساروی چیز و بدل آہ تم نامہ اعمال اندر رتہ یہیہ لیکن۔ ان اللہ لا یضییع اجر المحسنین ہز
 پانہ اللہ تعالیٰ جھونہ ضایع کران نیلو کارن ہنز مزدور۔ ولا ینفقون نفقہ صغیرہ ولا کبیرہ
 ولا یقطعون وادیاً الا کایب لہم یہ کرن نہ تم کانہ خرچ لوکت یا بوڈ۔ یہ ژھندن نہ کانہ
 میدانہ۔ مگر تمہ بدل نہ بلکہ یہیہ لیکن۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون ہجہ اللہ
 تعالیٰ تمہ ر ژ مزدور عطا کرہ تمی کائین ہنز۔ سمہ تم کران اس۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ
 ہزہ ہانہ با ایمان نیرن اکہ و نہ سارنی ہنہ فکولانفر من کل فرقة منهم طایفة ہجہ پانہ کیازہ آہ

رَجِبِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۳۸﴾ أَوْلَا يَسِرُونَ
 أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا
 يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ
 نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ
 انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
 يَفْقَهُونَ ﴿۱۴۰﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

بہرہ زود تین قرآن مجید ک تم سوزن ناپاکی پیٹھ ناپاکی۔ کیا زہ لہر بردنٹھ اوس حمد قرآن مجید ہکس اہکس
 جنس انکار کورمت۔ وڈن کوزکھ ہکس جنس وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ یہ منور تم کفر ہکس حاکس
 پیٹھ۔ قرآن مجید ک خاصیت ہتھو ہکک ایمانس اندر ترقی پیدہ کرن۔ مگر جای گروہر تھہ قابل آہن۔
 دل گروہر نفاذہ ہرہ پاک آہن أَوْلَا يَسِرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ آہا
 وچھان ہتھناتم زہ تھن ہتھ ضرور آزمائش ہوان کرنہ پر تھہ ڈرہہ ہتھ ہجر ہیا ڈوہ ہجر ہ ہتھہ تہ تھہ آتھس
 تہ ہلایہ منزبتلا کرنہ سیت۔ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ تو پتہ تہ ہتھہ تم باز ہوان تہ
 ہتھہ تم نصحت رہان وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ یہ ہلایہ کانہ نوو سوزہ نازل کرنہ
 ہوان ہتھو تمہ ساتہ ہتھہ تم آکھ آکھ کن و ہتھہ لگان۔ اشار و سیت ہتھہ آکھ آکھ پر تھان هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ
 أَحَدٍ وچھان ہتھو توبہ کن کانہ مسلمانواندرہ ثُمَّ انصَرَفُوا آہی ہتھہ ڈکن ہوان نبی کریم سزہ
 مجلس سزہ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ تعالیٰ ان ہجر ہتھہ دل دکن ہتھہ یہ يَا كُفْرًا قَوْمًا لَا
 يَفْقَهُونَ کیا زہ تھن ہتھونہ ہوز ہجر ی تران لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ای لو کو تھن آو
 توبہ کن ہتھہ ہراہ توبی سزہ یعنی از جنس بشر۔ ہتھہ توبہ تھن ہتھہ فیض حاصل کرن آسان سپہ عَزِيزٌ
 عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ تھن سیتھہ ناگوار تہ دشوار ہتھو توبہ کانہ تکلیف دائن حَرِيصٌ عَلَیْكُمْ سیتھہ

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ يَا مُؤْمِنِينَ رُدُّوهُ
 رَجِيمًا ﴿۱۳۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۹﴾

خواہش مجھ تمیں ہمہرہ قایدیج۔ یا المؤمنین رُدُّوهُ رَجِيمًا۔ یا ایمان رکھ مجھ تم سیشاہ مہربان تہ
 سیشاہ شفیق۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ ہر گاہ یہ آیتھ تہ لو کہ روگردانی کرن تہہ فرماؤ کہ کانہ پرواہ ہتھونہ۔ نَسْ بِتَحْوَمَہ اللہ
 تعالیٰ۔ کانہ معبود ہتھونہ تہس درای۔ تھس پینتھ کورمہ اعتماد۔ سُوٰی ہتھو پڑوہ عرشک مالک۔

